

کلام حضرت  
بابا فرید الدین مسعود نجف شاہ

(اردو ترجمہ مع فہرست)

چودھری محمد انور براہ



مکتبہ لیف سفیر

[Marfat.com](http://Marfat.com)

# جناب فرید الدین مسعودون کنج شکر

کے کلام کا

( اردو ترجمہ مع فرنگ )

مترجم

چودھری محمد انور براء

مکتبہ حروف سُفییہ

شیخ ہندی شریٹ، پچی گلی، دربار مارکیٹ، لاہور

0300-8124958

## جملہ بحق ناشر و مصنف محفوظ

نام کتاب : کلام جناب بابا فرید گنج شکر

مترجم : چودھری محمد انور براء

باہتمام : میاں عبدالقیوم

ناشر : مکتبہ لیونس فٹری

اشاعت : جون 2015ء

کپوزنگ : زرنا ب کپوزنگ سنشر، لاہور

طبع : ایوب پرنٹنگ پریس، لاہور

قیمت : 150 روپے

لیگل ایڈ واٹر:

محمد ناصر قادری (ایڈ و کیٹ ہائی کورٹ)

کتاب کی بہترین اشاعت کے لیے رابطہ کریں

مکتبہ لیونس فٹری

شہری سٹریٹ، کچی گلی، دربار مارکیٹ، لاہور

0300-8124958

## دیپاچہ

حضرت بابا فرید گنج شکر پنجابی زبان کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پنجابی زبان میں اشلوک لکھے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان کو ابھی اس دنیا فانی سے پرده کیے تقریباً ساڑھے سات سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ جب انہوں نے اپنا کلام لکھا تو اس وقت پنجابی زبان میں ایسے ہی الفاظ تھے جو انہوں نے لکھے۔ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہر چیز تبدیل ہوتی ہے اسی طرح پنجابی زبان میں بھی نئے نئے الفاظ وقت کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور کافی فرق آ گیا۔ وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے۔ اب اس زبان میں کافی الفاظ متروک ہو چکے ہیں وہ اب نہیں لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ لہذا میں نے جب ان کا کلام پڑھا تو یہ سوچا کہ یہ کلام اب ہر ایک کی سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ جناب نے کیا فرمایا ہے۔ لہذا اس کا اردو نثر میں ترجمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے جاننے میں آسانی ہو جائے کہ بابا جی نے بندے کے لیے کیا پیغام دیا ہے اور کیا فرمایا ہے بابا جی بڑے ہی کامل بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا زہد کیا اسی لیے انہیں زہد الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ بابا جی رب کے بندے کا اپنے رب سے لگاؤ اس کا ذکر اس کا درد کرنے کا سبق دیتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اس سے لوگا لے اور اس فانی زندگی میں اپنے مالک کو راضی کرے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ میں نے ان کے کلام کا اردو نثر میں ترجمہ کیا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کی ہے لوگوں کی سمجھ میں آجائے کہ جناب بابا جی اپنے اشعار میں بندے کے لیے کیا فرماتے ہیں کیا سبق دیتے ہیں۔ تو جناب میں بھی ایک انسان ہوں کوئی عقل کل نہیں ہوں مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہوں گی۔ تو جو صاحب یہ قدرت رکھتے ہیں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اسے درست کر کے پڑھ لیں اور میری غلطی پر پرده ڈال دیں۔ کیوں کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے خداوند تعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں اور ادارے کو آگاہ کر دے تاکہ آئندہ اس غلطی کی تلافی ہو سکے تو میری حضرات سے گزارش ہے مجھ سے جو ہوسکا میں نے کر دیا ہے۔ آپ میرے اور تمام مومنوں کے لیے دعا کر دیں۔ ہمارا آپ کا رب تعالیٰ ہم کو بخش دے اور دنیا میں کسی کا ہتھ نہ کرے اور خاتمہ بالا یمان کر دے۔ آ میں چودھری محمد انور بسراۓ

## بaba فرید مادرزادوں کا مل

آپ کی ولادت بامساعدة کے متعلق پہلے ہی مشائخ عظام نے پیش گوئی کر دی تھی کہ ہندوستان میں ایک شیخ کامل پیدا ہوگا جو گنج شکر کے نام سے پکارا جائے گا۔ ان سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوں گے اور ان کے اکثر مرید قطب ہوں گے۔ ان کے متعلق ہے کہ آپ والدہ کے شکم میں تھے کہ والدہ کا دل ایک دن بیر کھانے کو چاہا اور آپ کے پڑو سیوں کی بیری سے بلا اجازت چند بیر توڑ کر کھانے چاہے تو پیٹ میں بچے بڑا بیزار ہوا۔ تو والدہ نے وہ بیر نہ کھائے اور والدہ اکثر بعد ذکر کیا کرتیں کہ بینا تو نے مجھے بیر کھانے سے بچا لیا۔ ایک دفعہ ۲۹ شعبان کو آسمان پر بادل تھے چاند نظر نہیں آ رہا تھا لوگوں نے آپ کے والد جناب قاضی سلیمان سے پوچھا کہ صح روزہ ہوگا آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل شک کا دن ہے شک میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد لوگ ایک ابدال کے پاس گئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کل روزہ ہوگا یا نہیں۔ ابدال نے فرمایا آج رات کو قاضی سلیمان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر اس نے سحری دودھ پیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اگر نہ پیا تو روزہ ہوگا اور رات آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے سحری کے وقت دودھ نہ پیا تو لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے شام کو دودھ پیا۔

### آباؤ اجداد کی بر صغری میں آمد

آپ کا تعلق فرخ شاہ کابل کے خاندان سے ہے۔ اس زمانے میں سلطنت فرخ شاہ کے ہاتھ میں تھی اور جب سلطنت شاہ غزی کے قبضہ میں آئی تو فرخ شاہ کی اولاد کابل میں اپنی جائیداد اور اسباب سنبھالنے میں مشغول رہی۔ یہاں تک کہ چنگیز خان نے خروج کیا اور ایران کو تھہ تیغ کیا اور لوٹ مار چادی اور غزی کو بڑا خراب کیا۔ آپ کے جدا بجد شیخ عالم حضرت قاضی شعیب تین صاحبزادے ساتھ لیے بمعہ مال اسباب لاہور سے قصور پہنچے اور یہاں قیام فرمایا۔ قصور کا قاضی عدل و انصاف میں بڑا مشہور تھا۔ قاضی صاحب نے آپ کی عظمت و فضیلت کے متعلق سن رکھا تھا۔ اس لیے آپ کے خاندان کی آمد کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھا اور خوب تعظیم کی۔ قاضی نے آپ کی آمد کے بارے اس وقت کے سلطان شہاب دین غوری کو خط لکھا جو اپنے سلطان نے بھی دو خطوط لکھے اور لکھا کہ یہ خاندان بڑا خودار ہے اور صاحب کردار بھی

ہے اور صاحبِ کمال بھی۔ اس لیے خود شیخ شعیب کو ان کے شایانِ شان منصب کی پیش کش کرو۔ اس طرح کوکھتوال کا قاضی مقرر کیا گیا۔

## آپ کی پیدائش مبارکہ

آپ کی پیدائش کے سنه کے متعلق تذکرہ نویسوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کے متعلق ہے کہ 566ھ 571ھ 575ھ 584ھ 582ھ 595ھ 548ھ 569ھ 559ھ 569یا 571ھ 664ھ ہے۔ کیونکہ آپ کا وصالِ اکثریت کے نزدیک ہے اور اکثر آپ کی عمر مبارک کے متعلق ہے کہ آپ کی عمر 95 اور 93 سال ملتی ہے۔ صاحبِ میر الاولیاء نے آپ کی 95 برس لکھی ہے۔ جبکہ آپ کے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی عمر مبارک 93 سال بیان کرتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی نسبت یہ بات معتبر ہے بابا جی کے متعلق ان سے اور کوئی زیادہ نہیں جانتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارک کھتوال میں ہوئی جسے آج کل چاری مشائخ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں حاجی شیر بھی کہتے ہیں۔ یہ بورے والا سے تقریباً دس میل کے فاصلے پر ہے اور جنوب میں واقع ہے۔ آج کل ضلع وہاڑی میں شامل ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ پہلی رمضان المبارک کو ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک مسعود رکھا گیا۔ بعد میں حضرت شیخ فرید الدین عطار نے آپ کو اپنا نام عطا کیا۔ اس طرح شیخ شکر کا خطاب آپ کو مرشدِ کریم سے عطا ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے عالم غیب سے عطا ہوا۔ آپ کے ایک سو لقب ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام مبارک شیخ سلیمان اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی قرسم خاتون ہے۔ والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی تعلیم کا اور تربیت کا بندوبست آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا۔ چار سال کی عمر میں آپ نے کھتوال میں ہی قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور آپ نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ عربی اور فارسی زبان کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بابا کا خطاب آپ کو آپ کے مرشد پاک نے 18 سال کی عمر میں ہی عطا کر دیا تھا۔ آپ کے مرشدِ کریم جناب حضرت بزرگ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے دادا مرشد جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا زہد و عبادت کی کہ آپ نے زہدِ الانبیاء کا لقب پایا اور آپ کو اسی لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔

## نگنخ شکر کا خطاب

بچپن میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی تھیں۔ تو نماز سے پہلے جائے نماز کے نیچے شکر کھو دیا کرتی تھیں لیکن ایک دن وہ شکر رکھنا بھول گئیں۔ جب بابا جی نے نماز پڑھ کر جائے نماز اٹھایا تو نیچے شکر کا خزانہ تھا۔ آپ نے جتنی چاہی اٹھائی اور اس کے متعلق اپنی والدہ سے ذکر بھی کیا۔ آپ نے چاہا کہ مجاہدہ اختیار کریں آپ نے مرشد کریم سے عرض کی اور اپنا مدعی عابیان کیا۔ آپ نے فرمایا طے کارروزہ رکھو آپ نے تین دن کارروزہ رکھا۔ تیرے دن ایک شخص چند روٹیاں لایا آپ نے سمجھا یہ غیب سے آئی ہیں۔ آپ نے روزہ افطار کیا تو پھر دیکھا کہ ایک کوادرخت پر بیٹھا مردار کی آنتوں کے نکٹے کر رہا ہے۔ آپ کا جی متلا یا اور قے کر دی۔ معدہ کھانے سے خالی ہو گیا۔ یہ واقعہ مرشد کریم سے بیان کیا تو جناب نے فرمایا کہ وہ ایک شرابی کے گھر کا کھانا تھا۔ آپ کے معدہ نے قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے تین دن کارروزہ رکھ لیا۔ جب چھ دن ہو گئے تو ضعف بڑھ گیا۔ آپ نے روزہ کھونے کے لیے زمین پر ہاتھ مارا۔ تو چند سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے وہ شکر بن گئے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ شیطان کا مکر نہ ہو۔ آپ نے وہ بھی تھوک دیا اور حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ آدمی رات کو ضعف بڑھ گیا تو پھر سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈالے وہ شکر بن گئے۔ پھر تھوک دیے۔ جب تیری مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے سمجھا یہ غیب سے ہے۔ شیخ نے بھی یہی فرمایا تھا جو غیب سے ملے اس سے افطار کر لینا۔ یہ واقعہ اپنے مرشد کریم سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ روزی غیب سے آئی تھی اور فرمایا تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔

## مرشد کامل کا وصال

جب مرشد کریم کے وصال کا وقت آیا تو بابا جی اس وقت ہنس میں تھے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدرا الدین غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ جناب نعلین چوبیں مجھے عطا فرمائیں۔ حضرت خواجہ قطب الاقطاب نے فرمایا کہ میرا یہ خرقہ اور نعلین چوبیں فرید الدین مسعود کو دے دینا اور وہ میرا جائشیں ہے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے وہ دل و جان سے قبول کر لی۔ 14 ربیع الاول 633ھ کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی رات ہنس میں بابا جی کو بھی علم ہو گیا۔ آپ صبح اٹھئے اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے وصال کے چار دن بعد

آپ دہلی پہنچے۔ مرشد کریم کے مزار پر حاضری دی۔ قاضی حمید الدین ناگوری نے ود امانت آپ کے سپرد کر دی۔ آپ نے عقیدت سے خرقہ پہن لیا اور مند پر بیٹھ گئے اور ایک جہاں آپ کا گرویدہ ہو گیا۔

## کھتوال میں تشریف آوری

ہانس میں جب خلقت کا ہجوم ہو گیا تو آپ کھتوال پہنچے جہاں آپ کے آبا اجداد آباد تھے۔ وہاں آپ کچھ عرصہ رہے پھر یہاں سے ملتان قریب تھا۔ یہاں بھی خلقت کا ہجوم ہو گیا۔ آپ دنیاوی شہرت پسند نہ کرتے تھے۔

## پاک پتن (اجودھن) آمد

مغلوں نے لاہور کو بر باد کر دیا تھا۔ آپ لاہور جانے کی بجائے پاکستان میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ تقریباً 70 سال کی عمر میں یہاں تشریف لائے۔ 24 سال تک باقی زندگی یہاں ہی بسر کی یہاں ایک جوگی لوگوں کو شک کرتا تھا۔ اس کی آپ نے سرکوبی کی اور وہ یہاں سے چلا گیا اور یہاں کفر و ضلالت کا خاتمه ہو گیا۔

## آپ کے مفہومات

- ① غفلت اور گفتگو میں مشغول نہیں ہونا چاہیے تاکہ قیامت میں شرمندگی نہ ہو۔
- ② کوئی بھی کام رب تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔
- ③ جس نہ ہب میں ہم ہیں یہ امام ابوحنیفہ کا ہے یہ بالکل درست ہے۔
- ④ جس کے دل میں عطااء اور مشائخ کی محبت ہواں کا ایک ذرہ گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔
- ⑤ علمائے کرام انبیاء کے وارث اور مشائخ حق تعالیٰ کے بزرگزیدہ ہیں۔
- ⑥ عقل سب سے زیادہ شریف اگر عقل نہ ہوتی تو حق تعالیٰ کی معرفت کا علم نہ ہوتا۔
- ⑦ میزبان کے لیے واجب ہے کہ خود مہمان کے ہاتھ دھلانے۔
- ⑧ جو شخص میرے پاس آئے امیر ہو یا غریب اسے محروم نہ رکھنا۔
- ⑨ جو شخص بزرگان دین کے ہاتھ چوتھا ہے اللہ اس کے گناہ صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا

ہوا ہے۔

۱۰ جس اہل سنت پیر کا طریقہ قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو وہ پیر نہیں ڈاکو ہے۔

### آپ کی ازدواج اور اولاد

آپ نے تین شادیاں کیں بعض چار بھی کہتے ہیں لیکن تین زوجین کے نام ملتے ہیں۔

① شہزادی ہزریہ بانو۔ آپ کے متعلق ہے کہ آپ سلطانِ الہند غیاث الدین بلبن کی صاحبزادی تھیں۔

② ام کلثوم بی بی مجیب النساء

بابا جی کے پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔

بیٹے: ① حضرت خواجہ نصیر الدین ② حضرت خواجہ شہاب الدین گنج علم

③ حضرت خواجہ بدر الدین سلیمان ④ حضرت خواجہ نظام الدین ⑤ حضرت خواجہ یعقوب

بیٹیاں: ① حضرت بی بی مستورہ ② حضرت بی بی شریفہ ③ حضرت بی بی فاطمہ

### آپ کا وصال

4 محرم الحرام 664ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ آخری وقت آپ نے یا ہی یا قوم پڑھا اور جان جان آفریں کے حوالے کر دی۔ آپ کے مزار کا بھشتی دروازہ 6 محرم سے 10 محرم کی راتوں کو کھلتا ہے اور ہر سال آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔

### آپ کا شجرہ نسب

① حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب

② حضرت شیخ ناصر

③ حضرت شیخ منصور

④ حضرت شیخ ادھم

⑤ حضرت شیخ سلیمان

⑥ حضرت شیخ ابراہیم

⑦ حضرت شیخ واعظ الاکبر ابوالفتح

⑧ حضرت شیخ مسعود

⑨ حضرت شیخ فقیر فخر الدین محمود

⑩ حضرت شیخ سلیمان

⑪ حضرت شیخ شہاب الدین (فرخ شاہ) کابلی

- ⑯ حضرت محمد احمد  
⑰ حضرت شیخ سلیمان  
⑯ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر

### شجرہ طریقت

- ① حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ
- ② حضرت امیر المؤمنین حضرت علی
- ③ حضرت خواجہ حسن بصری
- ④ حضرت شیخ ابوالفضل عبدالواحد بن زید
- ⑤ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض
- ⑥ حضرت خواجہ ابراہیم بخاری
- ⑦ حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ المرشی
- ⑧ حضرت خواجہ امین الدین ابی معیرۃ البصری
- ⑨ حضرت خواجہ مختار دینوری
- ⑩ حضرت خواجہ ابواسحاق شامی حسنی باñی سلسلہ چشتیہ
- ⑪ حضرت خواجہ ابواحمد چشتی
- ⑫ حضرت ابو محمد چشتی
- ⑬ حضرت خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی
- ⑭ حضرت خواجہ محمد مودود چشتی
- ⑮ حضرت خواجہ شریف زندانی
- ⑯ حضرت خواجہ عثمان ہارونی
- ⑰ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی
- ⑱ حضرت خواجہ بختیار کاکی
- ⑲ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر

# مترجم کے مختصر حالاتِ زندگی

نام	چودھری محمد انور
ولد	چودھری حسین بخش (مرحوم)
قوم	جٹ
ذات	ببراء
تاریخ پیدائش	14 اگست 1947ء
پڑتال	تحصیل و ضلع ناروال گاؤں راؤ کے بڈھاڑھولہ بس شاپ رعیہ
خاص روڈ نزد آدو کے راجباں	
موجودہ پڑتال	گلبرگ III فردوں مارکیٹ مکہہ کالونی گلی نمبر 3 مکان نمبر 19
	نزدک ڈاکٹر ذکاء اللہ کلینک لاہور

پاک آرمی سے تعلق رہا۔ 1965 اور 1971 کی لڑائیاں لڑیں۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں رہا۔ لڑائی بھی لڑی لیکن قید نہ ہوا عین لڑائی میں میری یونٹ 25 بلوچ رجمنٹ مغربی پاکستان آگئی اور ادھر قصور محاڑ پر باقی لڑائی لڑی۔ دو بیٹے محمد یوسف برا اور عامر سعید برا ہیں۔ شروع سے پنجابی زبان سے لگا درہ رہا ہے۔ میری پنجابی کی تین کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ① قصیدہ بردہ شریف کا منظوم ترجمہ ② آمنہ دلال (نعتوں کا مجموعہ) ③ بندیا بن بندہ عارفانہ کلام کا مجموعہ۔

چھپائی کے مراحل میں کتابیں: ① بدیع الجمال سیف الملوك کا اردو نشری ترجمہ ② کلام بابا بھاشاہ کا اردو نشری ترجمہ ③ کلام شاہ حسین کا اردو نشری ترجمہ ④ پنجابی لغت۔ پنجابی سے اردو یہ تمام کتابیں انشاء اللہ جلد چھپیں گی۔ اگر زندگی رہی تو شاہنامہ کر بلا، کلام دائم اقبال اور کلام وارث شاہ ہیر رانجھا کا اردو نشر ترجمہ ہو گا۔

جت دیہاڑے وھن وری سا ہے لے لکھائے

ملک جو کنیں سُنی دامنہ وکھائے آئے

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں کہ کسی جوان لڑکی کی کسی لڑکے سے منگنی ہو جاتی ہے ان کی شادی کا دن مقرر کیا جاتا ہے۔ مقررہ دن کو لڑکا آتا ہے اور اسے بیاہ کے اپنی دلہن بنانے کا پنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اسی طرح بابا جی فرماتے ہیں جب روح کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے ان کا ایک ساتھ رہنے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ پورا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل جو سنتے آئے ہیں وہ روح اور جسم کو علیحدہ کرنے کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور روح کو جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور جسے ہم موت کہتے ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے اور عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔

**معنی:** جت: جیت، جس۔ دیہاڑے: دن، روز، یوم۔

وھن: مال، دولت، جوان لڑکی۔ وری: سرگائی، منگنی، بیاہ، شادی۔

سا ہے: منگنی شادی کے اوقات، سانس، مقررہ تاریخ۔ ملک: فرشتہ، جم۔

کنیں: کان، کانوں سے

چند نمائی کڈھے ہڈاں گوں کڑکائے

سا ہے لکھے نہ چلنی چندو کو سمجھائے

**ترجمہ:** جب عزرائیل جان قبض کرتے ہیں یعنی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کی ہڈیوں کو توڑ کر پھور پھور کر دیتے ہیں۔ وقت نزع اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ جو وقت موت کا مقرر کر دیا گیا ہے اس سے آگے ایک پل بھی نہیں چل سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو بتا دے کہ رضاۓ الہی کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا ہے۔

**معنی:** چند: جان، روح۔ کڑکائے: توڑے، توڑ دے۔

کڈھے: نکالے، جسم سے جدا کرے۔ ہڈاں: ہڈیاں۔ گوں: کو۔  
سابھے: مقررہ اوقات، سانس۔ نہ چلنی: نہیں چل سکتی۔ بھائے: بھادے بتا دے

جند وہی مرن ورنے جاسی پرناۓ

آپن ہتھیں جول کے کیس گل لگے دھائے

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ جان روح زندگی ایک دہن کی طرح ہے اور موت دوہما ہے جس طرح دوہما دہن کو بیاہ کر اپنے ساتھ لئے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اسی طرح موت روح کو حیاتی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اُسے بھیج کر اسے وداع کر کے پھر دوڑ کر کس کے گلے لگے گا اور کسے بتائے گا کس کی طرف بھاگے گا۔ کس سے جا کر فریاد کرے گا۔

**معنی:** وہی: دہن، بھی، لاڑی۔ مرن: موت، آجل، آئی، قضا۔

ورنے: دوہما، لاڑا، خاوند، مالک۔ پرناۓ: بیاہے، شادی کرے  
آپن: اپنے، خود۔ جول کے: بھیج کر، وداع کر کے۔ دھائے: بھاگے، دوڑے  
کیس: کس کے۔ گل: گلے

والوں نکی پل صراط کئیں نہ سُنی آئے

فریدا کڑی پوندی ای کھڑا نہ مھائے

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ جس طرح پل صراط ہے بال سے باریک اور تکوار سے تیز ہے نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح موت بھی جب آتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کافوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی نہیں جاسکتی ہے۔ اس کی خبر ہے اس کا پتہ ہے کہ موت آئے گی۔ اس کے لیے غافل نہ ہو۔ اس کے لیے تیاری کرو۔

**معنی:** والوں: بال سے۔ نکی: باریک، چھوٹی۔ صراط: راستہ، راہ، واد۔

کتنیں: کانوں سے، آواز سے۔ سُنی نہ آئے: آوازنیں آتی ہے۔ فریدا: اے فرید  
کڑی: خبر، پتہ، آگاہی۔ پوندی: پڑی۔ ای: ہے۔  
مُھائے: منہ دیکھتا رہو، دیکھتا رہے

فریدا در درویشی گا کھڑی چلاؤ دُنیاں بہت

بنھر اٹھائی پوٹلی کتھے ونجاں گھٹت

**ترجمہ:** اے فرید اس دنیا کے رسم و رواج دنیا کی زندگی آسائشیں دنیا کی رنگینی دنیا کی لذتیں ترک کر کے فقیری اختیار کرنا برا مشکل کام ہے۔ بڑا تکلیف وہ ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایک بھاری گھڑی باندھ کر سر پر اٹھائی جائے اور پھر اسے رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ پھر سوچ کے اسے کہاں رکھوں اور کہاں جاؤں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ فقیری آسان نہیں ہے۔ دنیاوی لذتوں کو ترک کرنا اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا۔ یہ کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لس کا کام نہیں ہے۔ جسے خدا پنے۔

**معنی:** در: دروازہ، باب، میں، داخلہ۔ بنھر: باندھ، باندھ کر۔

درویشی: فقیری، عاجزی، جوگ۔ پوٹلی: گھڑی، پتاری۔

گا کھڑی: مشکل، کٹھن، تکلیف وہ۔ کتھے: کہاں۔ چلاؤ: چلوں، جاؤں۔

ونجاں: جاؤں۔ بہت: رسم، رواج، نمونہ۔ گھٹت: ڈال، ڈال کر

کچھ نہ بجھے کچھ نہ سچھے دُنیاں بھی بھاہ

سائیں میرے چنگا کیتا تاں ہن بھی ونجاہا

**ترجمہ:** کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اور نہ کچھ نظر آتا ہے کہ دنیا ایک چھپی ہوئی آگ ہے۔ جو پتہ نہیں چلتا ہے اور زندگی جلائے جا رہی ہے۔ ڈکھوں اور غموں کی بھٹی ہے۔ میرے مالک میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان مجھ پر اپنی خاص رحمت فرمائی کہ میں بر باد ہونے

سے پہنچ گیا۔ مجھے اپنی رحمت اور خاص کر کرم سے اس دنیا کی آگ میں جلنے سے بچالیا۔  
میں بر باد ہونے سے محفوظ رہا۔

**معنی:** کجھ، کوئی۔ مجھے: سمجھ آئے، پتہ چلے، ٹھنڈی ہو۔

مجھے: دکھائی دے، نظر آئے۔ گھی: پوشیدہ، مخفی، چھپی ہوئی۔

بجاہ: آگ، آتش، نار، اگنی، آنچ۔ سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔

چنگا: بھلا، اچھا، بہتر۔ کیتا: کیا۔ تاں: تب، تو۔ تاں: تب، تو۔

ہن بھی، ہن بھی: میں بھی۔ ونجاہا: تباہ، بر باد، ویران

فرید آجے جانیں تل تھوڑے سنبھل کے بک بھریں  
بے جاناں شوہ نڈھڑا تھوڑا مان کریں

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تو جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا کی زندگی چند روز کی ہے اے سے ختم ہونا ہے تو اے سمجھداری سے گزارو۔ غرور اور تکبر نہ کرو۔ اپنی ہستی سے بڑے کام نہ کرو۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر چلو۔ زیادہ حرمن اور لائق نہ کرو۔ عاجزی انکساری سے رہو۔ اگر تم یہ جانتے بھی ہو کہ دنیا میں رہنا کم عرصہ کا ہے تو پھر اپنی حیاتی پر تکبر نہ کرو۔ اس کا اعتبار نہ کرو۔ پتہ نہیں یہ کس وقت ختم ہو جائے گی۔

**معنی:** جاناں: جانتا ہے، مجھے پتہ ہے، خبر ہے۔ تل: ایک جنس، تل کے نیچے۔

تھوڑے: کم، کم مقدار میں۔ سنبھل کر: احتیاط سے سنبھال کر۔

بک: دو توں جڑے کھلے ہاتھ۔ بھریں: بھرنا، ڈالنا۔ بے: اگر۔

شوہ: مالک، خاوند، خدا تعالیٰ۔ نڈھڑا: نوجوان، جوان عمر۔ مان: تکبر، غرور، اعتبار، بھروسہ

بے جاناں لڑ ڈھنناں پیڑھی پائیں گندھ  
تل بے وڈھ میں نہ کو سمح جگ ڈھاہنڈھ

**ترجمہ:** اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ سانسوں کی ڈور کمزور ہے یہ ٹوٹنے والی ہے۔ یہ آخوند  
جائے گی تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس مالک سے کمی اول گالو۔ اگر تمہیں یہ ڈر  
ہے کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں تو اس کا ہر پل ذکر کرو اور اس کے سامنے عرض گزارو کہ اے  
مالک میں نے سارا جہاں گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے تیرے جیسا عظیم اس دنیا میں اور کوئی نہیں  
ہے تو واحدہ لا شریک ہے۔ تیرا کوئی ثانی نہیں ہے۔

**معنی:** بے: اگر۔ لڑ: پلو، دامن۔ جھنماں: کمزور ہو کر دھاگوں کا الگ ہو جانا۔  
پیدھی: پکی، مضبوط، پختہ۔ گندھ: گرد، گانٹھ، بندھن۔ تین: تیرے، تو، تم، آپ۔  
وڈھ: بڑا، عظیم، عالی شان۔ سُھ: تمام، سارا، کل، سب۔  
جگ: جہاں، دنیا، عالم، دہر، یگ، کائنات، زمانہ۔ ڈٹھا: دیکھا، نظر آیا۔  
ہندھ: گھوم کر، پھر کر، تلاش کر کے۔ کو: کوئی

## فریداً بے تین عقل لطیف کالے لکھ نہ دیکھ

اپنے گریوان میں سر نیواں کر دیکھ

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے فرید اگر تو باریکیاں سمجھنے والی عقل رکھتا ہے تجھے سو جھ  
بوجھ ہے۔ اگر تو حقیقت کو سمجھنے والا ہے تو اپنے اعمال میں برا یاں نہ لکھوڑے کام نہ  
کرو۔ برا یوں سے بچو۔ اپنے اعمال میں برا یاں درج نہ کرو اور اپنا سر جھکا کر یعنی  
اپنے گریبان میں عاجزی سے جھانکو اپنے کاموں پر نظر ڈالو۔ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے  
کیا کرنا چاہیے اس مالک کے سامنے عاجزی سے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تمہارے  
اعمال نامے میں اچھائیاں درج ہوں۔

**معنی:** فرید: اے فرید اپنے سے مخاطب۔ تے: اگر۔ تین: تم، تو، آپ۔

عقل لطیف: حقیقت کو جاننے والی عقل۔ کالے: بُرے، سیاہ۔

لکھ: اعمال، نصیب، مقدار، برآت۔ گریوان: گریبان، قیص کا گلا۔

نیواں: نیچا، عاجزی، انکساری۔ دیکھ: دیکھ، نظر کر، غور کر

فریدا جو تیں مارن ملکیاں تہاں نہ ماریں گھُنم

اپنے گھر جائیے پیر تہاں دے چُم

ترجمہ: اے فرید جو تمہیں دکھ دیتے ہیں تجھے پریشان کرتے ہیں تجھے مارتے ہیں تو ان سے بدلہ نہ لے تو ان کو نہ مارنا۔ تو ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ صبر در گز ربراشت کرنا اور انہیں کچھ نہ کہنا۔ ان سے عاجزی کر کے اپنے گھر چلا جا۔ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دے۔ کیونکہ رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

معنی: تیں: تم، تو، آپ۔ مارن: مارتے ہیں، ماریں۔ ملکیاں: مٹھی بند کر کے گھونسہ تہاں: انہیں، ان کو۔ گھُنم: پلٹ کر، واپس، پھر کر۔ چُم: چوم کر۔ جائیے: جائیں پیر: قدم، پاؤں

فریدا جاں تو کٹھن ویل تاں توں رَتَّا دُنی سیوں

مرگ سو ای نیہنہ جاں بھریا تاں لدیا

ترجمہ: اے فرید جب تمہارا دنیا میں کچھ کمانے کچھ حاصل کرنے کا وقت تھا اس وقت تو دنیاوی زندگی میں دنیا کی لذتوں میں دنیا کی رنگینیوں میں مشغول تھا۔ بڑا مست تھا بڑا خوش تھا لیکن موت ایک ایسی بنیاد ہے ایسی حد ہے جو اپنے مقررہ وقت ہر بھرے ہوئے کو اُن دیتی ہے اور سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ نام نشان تک مثادیتی ہے یعنی عبادت نہ کر سکا۔

معنی: جاں: جب، جس وقت۔ کٹھن: کمانے، حاصل کرنے، کمائی کرنے۔

ویل: وقت، سماں۔ تاں: تب، اُس وقت۔ توں: تم، تو۔ رَتَّا: رنگیں، سرخ، لال، خوش دُنی: دنیا، عالم، جہان، دہر، کائنات، جہان۔ سیوں: سے۔

مرگ: موت، اجل، آئی کال۔ سو: وہ، اودہ۔ ای: ہے، وہی۔

نیہنہ: بنیاد، مول، جڑھ۔ لدیا: اُنک دیا، اُنڈیل دیا

وَيَكِّهُ فَرِيدًا جَوْتَهِيَا دَاثِهِيَا هُوَيَ بُحُور

آگَا نِيرَے آيَا پَچَھَا رَهِيَا دُور

**ترجمہ:** اے فرید جو ہوا ہے اُسے دیکھا سے پہچانوں اس پر غور کرو۔ تمہاری ریش بھوری ہو گئی ہے۔ اس میں سفیدی آگئی ہے بڑھا پا آ گیا ہے۔ اب وقت آخرت یعنی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور پچین اور جوانی کا وقت گزر گیا ہے وہ دور چلا گیا ہے۔ وہ اب لوٹنے والا نہیں ہے۔ اب آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا سے جانے کا بندوبست کرو۔ سوچو۔

**معنی:** فرید: اے فرید، اپنے آپ سے مخاطب۔ دیکھ: دیکھ، غور کر، سوچ تھیا: ہوا۔ بھور: سیاہ اور سفید۔ آگا: آگے، مستقبل، آنے والا۔

پچھا: پچھلا، پچھے والا، گزر اہوا

وَيَكِّهُ فَرِيدًا جَوْتَهِيَا شَكْرَ هُوَيَ وِس

سَائِمَيْنَ بَاجْهُوْنَ أَپَنَّ وَيَدَنَ كَبِيْرَ كَس

**ترجمہ:** اے فرید جو پچھہ ہوا ہے اُسے دیکھو اس پر غور کرو کہ شکر بھی زہر بن گئی ہے۔ اب دنیا کی لذتیں بھی بد مزا ہو چکی ہیں۔ ہر چیز کڑوی لگتی ہے۔ دنیا سے دل بھر گیا ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب اپنے رب اپنے مالک کے سوا کس سے اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اپنے دکھ کس سے بیان کریں اور بتا کون سننے والا ہے۔ اپنے امراض اور کسے بتائیں۔ اُس کے علاوہ کون ان سے شفایختنے والا ہے۔ کس کے آگے زاری کریں۔ سوائے مالک حقیقی کے اور کون سننے والا ہے۔

**معنی:** دیکھ: دیکھ، غور کر، سوچ۔ تھیا: ہوا، ہو گیا ہے۔

شکر: کماد کے رس سے بنی میٹھی شکر، چینی۔ وِس: زہر، کڑوی، بد مزا، زہری ملی۔

سَائِمَيْنَ: مالک، خدا، رب تعالیٰ، اللہ۔ بَاجْهُوْنَ، بنا، بغیر، علاوہ۔

وَيَدَنَ: امراض، روگ، دکھ۔ کَسَ: کسے، کس سے۔

فریدا اکھیں دیکھ پتیاں سُن سُن رنخے گن

ساکھ پکندی آئی آہ ہور کریندی ون

**ترجمہ:** اے فرید آنکھیں دیکھ دیکھ کر پتھرا گئی ہیں تھک چکی ہیں چندھیا گئی ہیں اور کان سن سن کر پک گئے ہیں دکھنے لگے ہیں۔ سننے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ان میں بہرہ پن آچکا ہے اور زندگی کی عمر کی شاخ سوکھ رہی ہے کمزور پڑ گئی ہے، پک گئی ہے اور اس کا رنگ روپ بدل گیا ہے۔ یعنی بڑھا پا طاری ہو گیا اور اپنی پہلی سی صورت بدل چکی ہے۔ اب وقت پیری ہے۔ اب جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔

**معنی:** اکھیں: آنکھیں، چشم، لوگن، عین، دیدے، نین، لوچن، اکھاں۔

پکندی: پک گئی۔ رنخے: پک گئے، تھک گئے، دکھنے لگے۔

ساکھ: شاخ، ثہنی، عزت۔ پکندی: پک گئی۔ ہور: اور۔ کریندی: کرتی۔

حالت: رنگ روپ، حیہ

فریدا کالیں جنہیں نہ راویا دھولیں راوے گوئے

کر سائیں سیوں پریڑی رنگ نویلا ہوئے

**ترجمہ:** اے فرید جس نے جوانی میں اپنے مالک اپنے رب کو راضی نہیں کیا ہے اس کی عبادت اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مالک کے احکام پر عمل نہ کیا ہے۔ بڑھاپے میں تو کوئی راضی کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں کیا راضی کرے گا جو جوانی میں نہیں کر سکا ہے۔ مالک سے محبت کر اس سے لوگا لے اس کا ذکر کر اس کی عبادت کرتا کہ تیرا رنگ ہی بدل جائے۔ تیری زندگی اور آخرت ہی بدل جائے۔ پھر باباجی فرماتے ہیں فرید جوانی اور بڑھاپے میں مالک تو ہمیشہ وہی ہے۔ اگر کوئی غور کرے سوچے وہ تو ہر وقت ہر عمر میں موجود ہے۔ وہ ہر وقت ہر حال میں ہر عمر میں سنتا ہے۔ جو کوئی اسے یاد کرے۔

**معنی:** کالیں: سیاہ بالوں، جوانی میں۔ جنہیں: جنہوں نے۔

راویا: راضی کیا، مائل کیا، خوش کیا۔ دھولیں: سفید بالوں، بڑھاپے میں، پیری میں۔  
کونے: کوئی، کوئی بھی۔ سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔ سیوں: سے۔  
پرہڑی: محبت، پیار۔ نویلا: علیحدہ، انوکھا۔ سدا: ہمیشہ۔ صاحب: مالک، رب تعالیٰ۔  
جے: اگر۔ چت: دل، من، ہر۔ دھرے: رکھے، یاد کرے۔

اپنا لایا، پرم نہ لگے ای جے لوچے سمجھ گئے  
ایہہ پرم پیالہ خصم کا جیں بھاوے تیں دے  
ترجمہ: جناب بابا جی سرکار فرماتے ہیں۔ یہ عشق محبت پیار لگن اُس مالک سے لوگانا اگر  
ہر ایک یہ چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا ہے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ  
محبت لگن کا جام اُسی مالک کے اختیار میں جسے وہ چاہے اسے پلا دے اسے عطا کر دے۔  
اُسے اپنا بنالے۔ اُسے لگن لگا دے اُسے لوگا دے۔ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ  
صرف اسی کی مہربانی ہے۔

**معنی:** پرم: محبت، پیار، لگن، لو۔ لایا: لگایا۔ لگے: لگتا ہے، ہوتا ہے۔  
ای: ہے۔ جے: اگر۔ لوچے: چاہے۔ خصم: خاوند، مالک، رب تعالیٰ۔  
جیں: جسے، جس کو۔ بھاوے: چاہے، بھلا لگے، قبول کرے۔ تیں: اُسے، اُس کو

فریدا جن کوئن جگ مُوہیا سے لوئن میں ڈٹھ  
کچل ریکھ نہ سہندیاں سے پنکھی سوئے ڈٹھ  
ترجمہ: بابا جی سرکار فرماتے ہیں اے فرید جن حسین آنکھوں نے زمانے کو مائل کیا  
زمانے کو ٹھگ لیا زمانہ جن کا دیوانہ تھا۔ وہ حسین آنکھیں میں نے دیکھی ہیں۔ وہ  
آنکھیں جو سرے کی دھاری برداشت نہیں کرتی تھیں اُس سے بھی نہ ہوتی تھیں۔ کبھی  
اُن میں پرندوں کی غلاظت پڑی بھی دیکھی ہے۔ وہ مالک جو حال چاہے بنادیتا ہے۔

اس کے سامنے کسی کا بس نہیں۔ وہ جو چاہے کرتا ہے۔

**معنی:** لوئن: آنکھیں، نین، عین، دیدنے، پشاوم، لُوچن۔

جگ: جہان، زمانہ، دنیا، کائنات۔ جگ: جہان، زمانہ، دنیا، کائنات۔

سے: وہ، سینکڑہ۔ ڈٹھ: دیکھی ہیں۔ کجل رکیھ: سر مے کی دھاری، لکیر۔

سہند یاں: برداشت کرتیں۔ پنکھی: پرندہ، جانور۔ ڈٹھ: پرندے کی غلاظت، بیٹ

فریدا کو کیندیاں چاگیندیاں تیں دیندیاں نت

جو شیطان ونجایا سے کرت پھریں چت

**ترجمہ:** بابا فرید سرکار فرماتے ہیں اے فرید رو تے کرلاتے چیختے چلاتے اور ہمیشہ نصیحتیں کرنے سے وہ دل کبھی بھی مائل نہیں ہوتے جن دلوں میں شیطان کا بسیرا ہے جو دل شیطان نے بر باد کر دیے ویران کر دیے ہیں۔ وہ کبھی حق کی طرف مائل نہیں ہوتے جن میں شیطان بس گیا ہے۔

**معنی:** کو کیندیاں: چیختے چلاتے ہوئے ② چاگیندیاں: آہ وزاری کرتے ہوئے۔

تیں: نصیحتیں۔ نت: ہمیشہ، سدا۔ ونجایا: بر باد کیا، بتاہ کیا، ویران کیا۔

سے: وہ۔ پھریں: لوٹیں، مڑیں، واپس آئیں۔ چت: دل، من، قلب

فریدا تھیا پواہی دبھ جے سائیں لُوڑیں سُھر

اک چھجے بیالتاڑیے تاں سائیں دے دَر واڑیے

**ترجمہ:** اے فرید اگر تو اپنے رب کا بندہ بننا چاہتا ہے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے لوگانا چاہتا ہے تو اس طرح ہو جا جس طرح راستے کی دبھ ہو جاتی ہے۔ ایک وہ پہلے ملیدہ تنکا تنکا ہوئی پڑی ہے دوسرا پھر اسے روندیں تب مالک کے دروازے میں داخلہ ملتا ہے تب اس کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تب وہ بندے کو اپنا بناتا ہے۔ یعنی اس

راستے کے گھاس طرح ہو جا جس کو لوگ پاؤں سے روند کر گزرتے اور وہ پھر بھی اپنے  
مالک کا ذکر کرتی ہے۔ اُس کا قرب ہی چاہتی ہے۔

**معنی:** تھیا: ہوا، ہو جا۔ پوا، ہی: راستے کی، راہ کی۔ وَبَهْ: ایک لمبی جڑھ والا گھاس۔

جے: اگر۔ سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔ لُوڑیں: چاہے، ضرورت ہے۔

سبھ: تمام، سب، کل، جملہ۔ چھجے: کمزور پر جائے، تنکے بکھر جائیں۔

بیا: دوسرا۔ لِتَأْثِیْے: روندیں۔ واڑیے: داخل کریں۔

فریدا خاک نہ نندیے خاکو جیڈ نہ گوئے

جیویدیاں پیراں تلے مُویاں اُپر ہوئے

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے فرید مٹی کی تو ہین نہ کریں اسے برانہ کہیں اس جیسا کوئی  
نہیں ہے۔ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ زندگی میں یہ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ زندگی  
میں اس کو پاؤں سے روندتے نہیں اور مرنے کے بعد یہ ہمارے اوپر ہوتی ہے اسی میں  
ہمارا بسرا ہوتا ہے۔

**معنی:** خاک: مٹی، گل۔ نندیے: بُرا کہیے، تو ہین کریں۔ جیڈ: جیسا، سا۔ کوئے: کوئی۔

پیراں: پاؤں، قدموں۔ تلے: نیچے۔ مُویاں: مرنے کے بعد۔ اُپر: اوپر

فریدا جاں لوبھتاں نیہنہ کیا لب تاں گوڑا نیہنہ

پھر جھٹ لنگھائیے چھپر ٹٹے مینہ

**ترجمہ:** اے فرید جب تک غرض لائچ تب تک عشق محبت پیار اگر لائچ اور خود غرضی کیا  
پیار کیا تو وہ جھونٹا پیار ہے۔ وہ مطلب پرستی جب بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تکلیف  
میں ہوتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اسے مدد کو پکارتا ہے۔ جب وہ مصیبت وہ ٹال دیتا  
ہے تو پھر اسے بھول جاتا ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے یہ خود غرضی ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں

اس ٹوٹی ہوئی بوسیدہ جھونپڑی اور برسات میں کب تک وقت گزار سکو گے۔ اس طرح تم کیا حاصل کر سکو گے۔

**معنی:** لوبھ: لاثج، حرص۔ تاں: تب، اُس وقت۔ نیہہ: محبت، پیار، دوستی، عشق لب: لاثج، حرص۔ کوڑا: جھوٹا۔ کچرہ: کب، کس وقت تک۔ لنگھائیے: گزاریں۔ چھپرہ: سرکندے کی جھونپڑی، سرخندے۔ مینہ: بارش، برسات۔

فریدا جنگل کیا بھویں وَن کند امُڑیں

وَسّی رب ہیا لے جنگل کیا لُڑیں

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے فرید جنگلوں میں ویرانوں میں کیوں کائنے روندتا چھاتا پھرتا ہے۔ کیوں باروں میں خوار ہوتا پھرتا ہے۔ اُس مالک کائنات کا بسرا تو دلوں میں ہے وہ تو ہر دل میں بستا ہے تو جنگلوں میں کیا تلاش کرتا پھر رہا ہے جسے تو تلاش کرتا ہے۔ ویرانوں میں پھرتا ہے وہ تو تیرے دل میں بستا ہے۔

**معنی:** ① بھویں: پھریں، پھرتا ہے، گھومتا ہے ② دن: ایک درخت، حال، حالت ③ کند: خار، کانٹا۔ مُڑیں: روندے، لتاڑے۔ وَسّی: کیتا ہے، قیام پذیر ہے۔ ہیا لے: دل میں، من میں۔ لُڑیں: تلاش کرتا، ڈھونڈتا

فریدا انہیں نکی جنگلہیں تھل ڈونگر بھو یوم

اَج فریدے گوڑا سے کوہاں تھیو یوم

**ترجمہ:** اے فرید تو نے ان ہی چھوٹی اور کمزور نانگوں سے پہاڑ ریگستان گاہے ہیں ہر جگہ جگہ تو گھوما پھرا ہے۔ زمانہ دیکھا ہے لیکن آج فرید کے لیے اس کا لوٹا بھی پڑا ہوا ایسے ہو گیا ہے جس طرح سینکڑوں کا کوسوں دور پڑا ہوا ہے۔ بابا جی جوانی اور بڑھاپے کی بات کرتے ہیں۔ جوانی میں انہاں کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے اور تھکاؤٹ نہیں ہوتی لیکن

بڑھانپے میں پاس پڑا ہوا پانی کالوٹا بھی سینکڑوں کوں دوردکھائی دیتا ہے۔  
**معنی:** انہیں: ان سے، انہی سے۔ نکی: چھوٹی، کم طویل۔ جگہیں: نامکمل۔  
**تھل:** ریگستان۔ ڈونگر: پہاڑ، جیل، کوہ، گر۔ بھویوم: پھرے، گھومنے۔  
**کوزہ:** طہارت کالوٹا، کروہ۔ سے: سینکڑا۔ تھیوم: ہوا، مجھ سے ہوا

فریدارا تمیں وڈھیاں دھکھو دھکھو اٹھن پاس  
 دھرگ تھاں دا جیوناں جھاں وڈاں آس

**ترجمہ:** اے فرید راتمیں اتنی بڑی طویل ہو گئی ہیں یہ رات کو لیئے پہلو بھی دکھنے لگ جاتے ہیں یعنی پہلو بھی تھک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ان لوگوں کی زندگی پر لعنت ہے جو بیگانی آس امید پر جیتے ہیں۔ بابا فرماتے ہیں اتنی طویل راتوں میں بھی وہ لوگ اٹھ کر اپنے مالک کو یاد نہیں کرتے خود کچھ نہیں کرتے اور پرانی امید پر جیتے ہیں۔

**معنی:** راتمیں: شب، لیل۔ وڈھیاں: لمبی، طویل۔ دھکھناں: تھک جانا، سلگنا۔  
 اٹھن: اٹھنا، اٹھیں۔ پاس: پہلو، کروٹ۔ دھرگ: لعنت۔ تھاں: ان کا۔

جھاں: جن کا۔ جیوناں: حیاتی، زندگی۔ وڈاں: پرانی، بیگانی، کسی کی۔ آس: امید

فریدا بھے میں ہونداوار یا مٹاں آ پڑیاں

ہیرا جلے مجھٹھ اوپر آنگاریاں

**ترجمہ:** اے فرید اگر میں نے اپنوں کے لیے کوئی قربانی دی ہوتی خلق خدا کے کسی کام آیا ہوتا میں خدا کی مخلوق سے کوئی بھلانی کی ہوتی، کوئی نیکی کی ہوتی کسی انسان پر بھی احسان کیا ہوتا تو آج میں اتنا دکھی نہ ہوتا آج میرا دل اس طرح نہ جلتا جس طرح انگاروں پر مجھٹھ جلتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں جس انسان نے زندگی میں بھلانی کے کام کیے ہوں کسی کے کام آیا ہو۔ اسے دلی سکون ہوتا۔

**معنی:** جے: اگر۔ ہوندا: ہوتا۔ داریا: قربان ہوا، کام۔ مٹاں: دوست، پیارے آپڑیاں: گھر آئے ہوئے۔ ہیریا: دل، من، چت، ہر۔ مجھٹھ: ایک نہایت، سرخ چیز اپر: اوپر، پر۔ انگاریاں: کوکلوں

فریداً لُؤڑے داڪھ بجورڈیاں ڪلگر بیجے جٹ

ہندے اُن کتیندیاں پیدھا لُؤڑے پٹ

**ترجمہ:** اے فرید کسان بول کیکر کاشت کر کے (لگا کر) چاہتا ہے کہ اس سے دیر با جوڑ کے انگور حاصل ہوں اور جس کی زندگی اُون کاتنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ریشمی لباس پہنوں۔ بابا جی فرماتے ہیں جو شخص خود برائی کرتا ہے اور اس کا صلہ بھلانی چاہتا ہے جو اس نے کیا نہیں وہ مانگتا ہے۔ خود اس باری تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور پھر بھی اس سے بخشش مانگتا ہے لیکن وہ تور حیم ہے بخشش والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خود بھی اچھے کام کرے اُسے یاد کرے۔

**معنی:** لُؤڑے: تلاش کرے، ڈھونڈے، مانگے۔ داڪھ: انگور۔ بجورڈیاں: علاقہ با جوڑ ڪلگر: بول، کیکر۔ بیجے: لگائے، کاشت کرے۔ جٹ: کسان، کاشتکار۔

ہندے: گزرے، بیتے۔ اُن: اُون۔ کتیندیاں: کاتتے ہوئے۔

پیدھا: پہننا، زیب تن کرنا۔ پٹ: ریشم کا کپڑا، ریشمی کپڑا

فریدا گلکھیں چکڑ ڈور گھر نال پیارے نیہنہ

چلاں تاں بھجے کمبلي رہاں تاں ٹھٹے نیہنہ

**ترجمہ:** اے فرید راستے دلدلی ہیں بڑے کٹھن ہیں۔ منزل بھی بڑی دور ہے طویل سفر ہے اور محبوب سے عشق بھی ہے، پیار بھی جانا بھی ہر حالت میں ہے۔ اس کا نظارہ بھی دیکھنا ہے۔ اگر چلتا ہوں برسات سے کمبل گیلا ہوتا ہے یعنی دنیاوی مشکلات بھی ہیں اگر نہیں

جاتا رہ جاتا ہوں تو عشق محبت ٹوٹی ہے۔ دوستی جاتی رہتی ہے۔ یعنی مالک کو پانے کے لیے دنیا کی مشکلات بھی آڑے آتی ہیں لیکن اُس کے بندے ان کی پرواہ نہیں کرتے وہ ہر حال میں اپنے مالک کا قرب چاہتے ہیں۔

**معنی:** گلنسیں: گلیوں میں، راستوں میں۔ چکڑ: ڈلدل۔ نال: ساتھ، ہمراہ۔  
نیہنہ: عشق، محبت، پیار، دوستی۔ چلاں: چلوں، جاؤں۔ تاں: تب۔  
بھیج: بھیکے، گلی ہو۔ کمبی: چھونا کمبل۔ ٹوٹے: ٹوٹے، علیحدگی ہو۔

بھجو بھجو کمبی اللہ ور سو بینہ

جائے ملاں تھاں بجان ٹوٹ نا ہیں نیہنہ

**ترجمہ:** کمبل بھیگ جائے گیلا ہو جائے ہر مشکل قبول ہے برداشت کروں۔ اللہ پاک اپنی رحمت جاری رکھے بارش برستی رہے۔ میں اپنے ان پیاروں سے جاملوں ان کا دیدار ہو جائے میری محبت میں فرق نہ آئے میری اُن سے دوستی نہ ٹوٹنے پائے۔ میری دوستی میری محبت ان سے برقرار رہے۔ مجھے اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو جائے۔

**معنی:** بھجو: گلی، بھیگ جائے۔ بھجو: بھیگ جائے، تر ہو جائے۔  
ورسو: برسائے، برسے۔ بینہ: برسات، بارش۔ جائے: جا کر۔ ملوں: مل لور۔  
تھاں: انہیں، اُن کو۔ بجان: دوستوں، پیاروں۔ ٹوٹ: ٹوٹے۔ نا ہیں: نہیں۔

نیہنہ: عشق، دوستی، محبت، پیار

فریدا میں بھلا واپک دامت میلی ہو جائے

گھیلا رُوح نہ جانے سر بھی مٹی کھائے

**ترجمہ:** اے فرید میں اسی شک میں بھول میں تھا کہ شاید میری دستار میلی ہو جائے گی۔

میری پکڑی گندی ہو جائے گی لیکن نادان روح یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ سر بھی تو مٹی نے ہی کھا جانا ہے۔ مجھے تو صرف اپنی پکڑی میل ہونے کا خیال تھا کہ کہیں یہ نہ میلی ہو جائے لیکن جس سر کو سجائے کے لیے یہ پکڑی باندھتے ہیں وہ سر بھی تو مٹی نے ہی کھا جانا ہے۔

**معنی:** بھلاوا: بھول۔ پک: پکڑی، دستار، جبکہ۔ بگھیلا: پاگل، نادان، بیوقوف جانے: جانتا ہے۔ کھائے: کھا جانا ہے

فَرِيدًا شَكْرَ كَهْنَدْ نَوَاتْ گُرْ مَا كَهْيُو ما جَهْ دُودْ

سَبَّهَ وَسَتوُنْ مِثْيَاں رَبْ نَهْ بَجْنَ مُدْهَ

**ترجمہ:** اے فرید شکر چینی گنا گرد شہد اور بھینس کا دودھ یہ تمام میٹھی ہیں بڑی لذیذ ہیں۔ مزیدار ہیں لیکن تم اس خدا کی دی ہوئی یہ تمام نعمتیں کھا کر بھی اس کا شکر یہ ادا نہیں کرتے ہو۔ اس کا ذکر نہیں کرتے ہو اس کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ اپنے مالک کو راضی نہیں کرتے ہو۔ اس لیے تم اپنے مالک کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔

**معنی:** کھنڈ: چینی۔ نوات: شکر، کماد، گنا۔ ما کھیو: شہد۔ ما جھ: بھینس۔ دُودھ: دودھ، شیر۔ سبھے: تمام، کل، سب۔ وَسَتوُنْ: چیزیں، اشیا۔ مِثْيَاں: میٹھی، شیریں۔ بَجْنَ: پہنچنا، قرب ہونا۔ مُدْهَ: تم، تجھے۔

فَرِيدًا روْلِي مِيرِي كَاثْهَ دِي لاَونِ مِيرِي بُحْكَهْ

جَهْبَاهِ كَهَادِي چُوْرِي گَهْنَ سَهَنِ گَهْ دُوكَهْ

**ترجمہ:** باباجی فرماتے ہیں میری روٹی جو میرے لھانے کی چیاتی ہے وہ لکڑی کی ہے اور میری بھوک ہی میرا سالن ہے۔ میں اسی سے اپنی روٹی کھاتا ہوں۔ وہی میری خوراک ہے اور جنہوں نے گھنی لگی چیزی مزیدار کھائی ہیں وہ دکھ بھی زیادہ ہی برداشت کریں گے۔ ان کے لیے سزا میں بھی سخت ہوں گی جنہوں نے زندگی میں مزے اڑائے عیش و

عشرت کی ہے۔

**معنی:** کاٹھ: لکڑی۔ لاون: سالن۔ کھادی: کھائی۔ چوپڑی: گھی لگی ہوئی۔  
گھنے: زیادہ، بہت۔ ہن گے: برداشت کریں گے۔

زکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی  
فریدا دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ اے بندے جو کچھ تمہیں قدرت نے کھانے کو دیا ہے اُسی پر قناعت کر اور کھا کر اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ اے فرید کسی کی گھی لگی دیکھ تو اپنا دل نہ ترسا۔ تو اس کی خواہش کر۔ بابا بندے کو رزق حلال کھانے کی تاکید کرتے ہیں۔

**معنی:** زکھی: خشک، نہ بن سالن کے۔ دیکھ: دیکھ۔ پرائی: بیگانی، کسی کی۔  
چوپڑی: گھی لگی۔ ترساویں: لپچانا۔ جی: دل، من، چلت۔

اج نہ سُتی گفت سیوں انگ مردیں مرد جائیں  
جاوَ پچھو ڈوہاگنی تم کیو رین وہاُمیں

**ترجمہ:** آج میرے خاوند میرے مالک سے میرا میل نہیں ہوا ہے۔ میرے جسم کے اعضاء ٹوٹ رہے ہیں۔ جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اعضاء دوہرے ہو رہے ہیں اور اس مالک کی ٹھکرائی ہوئی سے جا کر پوچھئے کہ تمہاری رات کیسے گزری ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں آج اپنے مالک کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اے یاد نہیں کیا ہے اس سے میل نہیں ہوا ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے۔ دل پریشان ہے لیکن وہ جو اس مالک کو بھولے ہوئے ہیں ان کی رات کیسے گزرتی ہے مالک کا ذکر نہیں کرتے۔

**معنی:** سُتی: سوئی۔ گفت: خاوند، شوہر، مالک، رب تعالیٰ۔

سیوں: سے، ساتھ، سنگ۔ انگ: اعضاء، حصے۔ مردیں: دوہرے ہوں۔

جائے: جا کر۔ ڈوبائی: مالک کی ٹھکرائی ہوئی، ڈھنکاری۔ کیوں: کیسے، کس طرح۔  
رین: رات، شب، لیل۔ وہاں میں: گزریں، برسوں۔

سوہرے ڈھوئی نہ لھی پیئے ناہیں تھاں

پرواڑی نہ پچھے ڈھن سوہاگن ناں

**ترجمہ:** سرال میں کوئی سہارانہ ملا ہے۔ باپ کے گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے اور میرا محبوب بھی میرا خاوند بھی میرا حال نہیں پوچھتا ہے۔ میں جوان ہو کر بھی سہاگن نہیں ہوں۔ میں کیسی دلہن ہوں بابا جی فرماتے ہیں اس جہاں میں بھی میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے اور آخرت کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں کیسا انسان ہوں کہ جس کا مالک بھی میری خبر گیری نہیں کرتا ہے۔ میں اُسے بھی راضی نہیں کر سکا۔

**معنی:** سوہرے: سرال کا گھر۔ پیئے: باپ کا گھر۔ ڈھوئی: سہارہ، پناہ، جگہ، ٹھکانہ لھی: ملی، ٹھکانہ۔ تھاں: جگہ، مقام، ٹھکانہ۔ پر: محبوب، پیارا، خاوند، مالک۔

دواڑی: حال، خیرت، خبر۔ ڈھن: مال، دولت، جوان عورت۔ سوہاگنی: شادی شدہ، دلہن

س وہرے پیئے گفت کی گفت اگم آتھاہ

فریداً سُوئی سُوہاگنی جو بھاوے بے پرواد

**ترجمہ:** دنیا اور آخرت سب کچھ اسی مالک کائنات کا ہے۔ وہی عالم الغیوب اور لاحد و دشان والا ہے۔ اے فرید وہی سہاگن ہے جو اس بے پرواد مالک کو پسند آ جائے۔ جو اس کو اچھی لگے وہی اچھی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک وہی رب العزت ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وہی اچھا ہے جو اس کو پسند آ جائے۔ جسے وہ اپنالے۔

**معنی:** سوہرے: سرال، سوہرا گھر۔ پیئے: باپ کا گھر، پیکے۔

گفت: شوہر، خاوند، مالک۔ اگم: غیب جانے والا۔ اتحاد: احمد در، گہرا۔  
سوئی: وہی، وہی۔ بھادے: اچھی لگے، پسند آئے۔ بے پرواہ، بے نیاز

نہاتی دھوتی سنبھی سُتی آءِ نچند

فریدا رہی سو بیڑی ہنگ دی کتھوری گندھ

ترجمہ: نہاتی دھوتی بنی سنوری بے فکر سو گئی۔ مالک کی یاد بھلا دی اس کا ذکر نہ کیا۔ اس کی عبادت نہ کی اسے یاد نہ کیا۔ اس غافل کی کستوری کی خوشبو بھی ہنگ کی بدبو میں بدل گئی۔ باباجی فرماتے ہیں کہ جس نے غافل ہو کر اس مالک کی یاد بھلا دی اس کی بندگی چھوڑی۔ اس نے اپنے کیے کرتے پر پانی پھیر دیا۔ اپنا سب کچھ بر باد کر لیا۔ اس مالک کل کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہونا اسے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔

معنی: نہاتی: نہاتی۔ سنبھی: بنی سنوری۔ سُتی: سوئی۔ نچند: بے فکر، غافل۔

بیڑی: کم مقدار۔ ہنگ: ایک بد بوار چیز، دواں۔ کتھوری: کستوری، خوشبو۔  
خوشبو: باس، مہک۔

جو بن جاندے نہ ڈرائ جے شوہ پریت نہ جائے

فریدا کیتی جوبن پریت بن سُک گئے کملائے

ترجمہ: مجھے اپنی جوانی اپنا حسن اگر چلا جائے نہ رہے کوئی غم نہیں ہو گا کوئی پریشانی نہیں ہو گی۔ اگر میرے مالک کی محبت اس کی مہربانی اس کی مہر نگاہ مجھ پر رہے۔ میرا مالک مجھ پر راضی ہے۔ اے فرید میں نے کتنے حسین اور جوان محبوب کی مالک کی محبت کے بغیر سوکھے اور مر جھائے ہوئے دیکھے ہیں۔ باباجی فرماتے ہیں کہ سب کچھ حسن جوانی چلی جائے لیکن محبوب کی محبت نہ جائے۔ کیونکہ مالک کی نگاہ کرم کے بغیر میں نے بڑے حسین و تمیل بر باد ہوتے دیکھے ہیں۔

**معنی:** جو بن: جوانی۔ جاندے: جاتے۔ ڈرائی: ڈرتی، گھبراٹی۔  
جے: اگر۔ شوہ: خاوند، مالک، رب تعالیٰ۔ پریت: محبت، عشق، دوستی۔  
بن: بغیر، بنا۔ شک: سُوكھ۔ کملائے: مرجھائے

فریدؒ اچنت کھٹولا وان دُکھ برہ و چھاون لیف

ایہہ ہمارا جیوناں ٹوں صاحب سچے دیکھ

**ترجمہ:** اے فرید نظر سوچ پریشانی میری چارپائی ہے جو دکھوں کے بان سے نہی ہوئی  
ہے اور جدائی کا بچھونا ہے۔ اے میرے مالک اے میرے رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہی  
میری زندگی ہے، یہی میری گزر بسر ہے۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ یہی میرا  
حال ہے میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ جس طرح تو چاہتا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔

**معنی:** چنت: فکر، اندریشہ، پریشانی۔ کھٹولا: چھوٹی چارپائی۔

وان: بان، جس روئی سے چارپائی بنتے ہیں۔ برہ: جدائی، دوری، فرقہ۔

و چھاون: بچھونا، تو شک، تلاٹی۔ لیف: لحاف، رزاٹی۔ جیوناں: زندگی، حیاتی۔

صاحب: مالک، رب تعالیٰ۔ دیکھ: دیکھ

برہا برہا آ کھیئے برہا ٹوں سلطان

فریدؒ اجت تن برہانہ اُ پچے سوتیں جان مسان

**ترجمہ:** جدائی جدائی سب کہتے ہیں اے جدائی تو بادشاہ ہے۔ تو سب سے بڑی ہے تیرا  
ہی مراج ہے۔ اے فرید جس بندے نے جس جسم نے جدائی کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ جس  
نے جدائی برداشت نہیں کی ہے۔ اے اسی طرح ہی جانے جس طرح ہندوؤں کی  
مردے جلانے کی جگہ ہے۔

**معنی:** برہا: جدائی، فرقہ، دوری۔ آ کھیئے: کہیں، کھی۔ سلطان: بادشاہ، فرمائوا۔

جت: جیت، جس۔ تن: جسم، بدن، سریر۔ برہوں: جداگانہ، دوری، بھر۔  
اپنے: طاری بہو، نہ پہنچے۔ سو: وہ، اوہ۔ مسان: شمشان، ہندو مردے جلانے کی جگہ

فریدا ایہہ وس گندلاں ڈھریاں کھنڈ لواڑ

اک راہیندے رہ گئے اک رادھی گئے اجڑ

**ترجمہ:** اے فرید یہ زہریلی یہ کڑوی گندلیں مفاد، جائیداد، اولاد، زرودولت مال، دنیاوی لذتیں، حرص و ہوس اور لائق کی چینی مٹھاں لگا کر رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا میں انسان زردوالت مال اکٹھا کرنے کے لیے ناجائز ذراائع استعمال کرتا ہے۔ اولاد کے لیے جائیداد بناتا ہے۔ دوسروں کا حق کھاتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے لیے دوزخ کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے لیکن لائق میں سب بھول جانا ہے۔ کچھ لوگ اسے پوری زندگی اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو اس جمع شدہ کو اجڑ دیتے، برباد کر دیتے ہیں۔ ٹھکرا دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں چاہیے ہوتا۔ ان پر دنیا غالب نہیں آتی ہے۔

**معنی:** ایہہ: یہ، یہی۔ وس: زہر، زہریلی، کڑوی۔ گندلاں: سرسوں وغیرہ کا تنا  
ڈھریاں: رکھی۔ کھنڈ: چینی۔ لواڑ: بوہڑ، کسی چیز کی چاشنی لگا کر  
راہیندے: بوتے، کاشت کرتے، بیجتے۔ رادھی: بوئی ہوئی

فریدا چار گوائیاں ہند کے چار گوائیاں سُم

لیکھا رب منگیسا توں آیوں کیہڑے کم

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں اے فرید تو نے اپنی زندگی کے دن رات گھوم پھر کر سیر پاٹے بے فکری میں دنیا کی رنگینوں میں کھو کر گزار دیے اور کچھ غفلت میں لاپرواہی میں سو کر گزار دیے اور اپنے مالک کو یاد نہ کیا۔ اس کی عبادت نہ کی۔ اس کے احکام پر عمل نہ کیا۔ تو فرماتے ہیں خداوند تعالیٰ بندے سے اس کا حساب مانگے گا کہ اے بندے تو دنیا

میں کس لیے آیا تھا اور تو کیا کرتا رہا۔ تم نے کیسے دنیاوی زندگی گزاری۔ تو نے میر۔  
احکام عمل کیا۔ بندے کو محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ پھر پچھتا گے۔  
**معنی:** گواہیاں: ضائع کیس، کھودیں، برباد کیس۔ ہندکے: گھوم پھر کر، سیر کر کے۔  
سم کے: سوکر، خواب میں۔ آیوں: آیا۔ منگیسا: مانگے گا، حساب لے گا۔  
کیہڑے: کس، کس لیے۔ کم: کام، کام کے لیے۔

### فریدا در دروازے جائیے کیو ڈٹھو گھڑیاں

ایہہ ندوساں ماریے ہم دوسارا کیا حال

**ترجمہ:** باباجی فرماتے ہیں اے فرید دروازے میں جاتے ہوئے تم نے دروازے میں لگا ہوا گھڑیاں کبھی دیکھا ہے وہ گھنٹی کبھی دیکھی ہے جسے ہر گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد ایک چوتھا لگا کر بجا یا جاتا ہے اور سارا دن رات اسے وقت کے مطابق اُس کو چوٹیں لگائی جاتی ہیں۔ اسے پیٹا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی گناہ اور قصور نہیں ہوتا ہے۔ اس بے گناہ کو پیٹا جاتا ہے لیکن ہم جو گنہگار ہیں قصور وار ہیں ذرا سوچئے پھر ہمارا کیا حال ہو گا۔ ہمارے ساتھ مالک کیا برداشت کرے گا۔

**معنی:** در: میں، دروازہ، مول، قیمت۔ ڈٹھو: دیکھا۔ گھڑیاں: بجائے والا گھنٹہ، نگی۔  
ایہہ: نیہ، نہی۔ ندوسا: بے گناہ، بے قصور۔ ماریے: پیشیں، ماریں۔  
ذوسار: گنہگاروں، خطاؤاروں۔ دا: کا

### گھڑیے گھڑیے ماریے پھریں لہے سزاۓ

سُو ہیڑا گھڑیاں جیوں دکھی رین وہائے

**ترجمہ:** گھڑی گھڑی گھڑیاں کو مارا جاتا ہے اسے پیٹا جاتا ہے۔ اسے کئی عرصے تک سزا ملتی رہتی ہے۔ پھر بھی اس کی سزا ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ دل بھی اس گھڑیاں کی طرح جو

دکھوں میں ہی رات گزارتا ہے۔ اس کا حال بھی اُس گھریال جیسا ہی ہے۔ اسے بھی کسی پل سکون نہیں ملتا ہے۔

**معنی:** گھریے گھریے: گھری گھری، پل پل۔ ماریئے: ماریں، پیشیں۔

پھریں: پھروں میں۔ لے: ملے، حاصل ہو۔ سو: وہ، وہی۔ ہیڑا: دل، من، چت، ہر۔ جیوں: جیسے، جس طرح۔ ذکھی: ذکھی۔ رین: رات، لیل۔ وہائے: گزرے، بلسر ہو

بُدھا ہویا شیخ فرید گنبن لگی دیہہ

جے سو و رہیاں جیوناں بھی تَن ہو سی کیھے

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ بزرگ فرید بوڑھا ہو گیا وقت پیری آگیا۔ جسم میں طاقت نہ رہی جسم لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ رعشہ طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں چاہے یہ دنیا کی زندگی سو سال بھی ہو بندہ سینکڑوں برس بھی جے آخر اس جسم نے پھر مٹی ہونا ہے۔ خاک میں مل جانا ہے۔ انسان کو کہتے کہ آخر تو فانی ہے تو نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔

**معنی:** شیخ: بزرگ۔ گنبن: کانپنے، لرزنے۔ دیہہ: جسم، بدن۔ جے: اگر۔

و رہیاں: برسوں، سالوں۔ جیوناں: جینا، زندگی، حیاتی۔ تَن: جسم، بدن۔ ہو سی: ہو گا۔ کیھے: مٹی، خاک، راکھ

بار پرائے بینا سائیں مجھے نہ دیہہ

جے تو ایویں رکھی جیو سریروں لیہہ

**ترجمہ:** بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ میرا ماں ک مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ مجھے کسی کے سہارے نہ چھوڑے۔ مجھے صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ مجھے کسی کے در بیٹھنا فیض نہ کرے۔ عرض کرتے ہیں اے میرے ماں اگر ایسا کرنا ہے تو میرے جسم سے جان نکال لے۔ مجھے

ایسی زندگی نہیں چاہیے جو تیرے سوا کسی اور کی محتاج ہو۔ بس مالک مجھے اپنا ہی محتاج رکھ۔  
**معنی:** بارہ: سہارے۔ پرانے: کسی کے، بیگانے۔ بینا: بیٹھنا۔

سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔ دیہہ: دے۔ بج: اگر۔ ایویں: اس طرح، ایسے  
 جیو: جان، زندگی، حیاتی۔ سریہ: جسم، بدن۔ لیہہ: لے

کندھ کھڑا سُر کھڑاون کے سر لوہار  
 فریدا ہوں لوڑاں شوہ اپنا توں لوڑیں انگیار

**ترجمہ:** کندھے پہ کھڑا رکھے دن کے درخت کے پاس اسے کامنے کے لیے بالکل  
 تیار کھڑا لوہار اسے کامنا چاہتا تھا تاکہ اس کی لکڑی سے اپنی بھٹی تپانے کے لیے کوئلے  
 بنائے۔ باباجی فرماتے ہیں اے فرید میں اپنا مالک تلاش کر رہا ہوں۔ اپنے رب سے ملنا  
 چاہتا ہوں اور جبھے اپنے لیے انگاروں یعنی کوئلوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی ضرورت کی  
 فکر ہے اور مجھے اپنے مالک کی تلاش ہے۔

**معنی:** کندھ: کندھا، شانہ، دیوار۔ کھڑا: کھڑا، تبر۔ سُر کھڑا: تیار کھڑا۔  
 وُن: ایک درخت۔ لوڑاں: تلاش کروں۔ ہوں: میں، خود۔  
 شوہ: مالک، خدا تعالیٰ، شوہر، خاوند۔ لوڑیں: تلاش کرتا ہے، ضرورت ہے۔  
 انگیار: انگارے، کوئلے

فریداً اکناں آٹا اگلا اکناں ناہیں لوں  
 آگے گئے سنجا پس چوٹاں کھا سی گون

**ترجمہ:** باباجی سر کار فرماتے ہیں کہ ایک ایسے جن کے پاس بہت رزق ہے اور کئی ایسے  
 ہیں جن کے پاس صرف نمک بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے مالدار دولت مند ہیں اور کئی  
 بیچارے روٹی کو ترستے ہیں لیکن یہ تروز میزان اس مالک کے سامنے ہی پتہ چلے گا کہ کون

اچھا ہے اور کون برا ہے۔ کے رہائی نصیب ہوتی ہے اور کے سزا ملتی ہے۔ یہ فیصلہ تو وہ  
مالک کل ہی کرے گا۔ اس کا اور کسی کو اختیار نہیں ہے۔

**معنی:** اکناں: کئی ایک۔ اُگلا: وافر، زیادہ۔ ناہیں: نہیں، نہ۔ لون: نمک۔

آگے: آگے۔ سجاپسن: پہچانے جائیں، شناخت ہوں۔

چوٹاں: ضریں، مار پیٹ۔ کھاسی: کھائے گا، برداشت کرے گا

### پاس دُماءٰ چھت سر بھیری سڈ وَ رڑ

جائے سُتے جیران میں تھیئے یتیماں گذ

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں وہ لوگ وہ سلطان حکمران جن کے گرد نقارے بجتے باجے  
بجتے تھے سر پر چھتر جھولتے تھے اور ساتھ لا و لشکر آگے قصیدہ گو قصیدے بیان کر رہے  
ہوتے تھے جن کا اتنا شان و شوکت تھا۔ زمانے میں طوٹی بولتا تھا۔ وہ بھی اس دنیا فانی  
سے چلے گئے اور قبرستان میں عاجزوں کی طرح پڑے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کوئی امیر  
ہے یا غریب، چھوٹا یا بڑا ہے سب نے مرتا ہے۔ یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں  
ہے۔ سوائے واحد باقی ہے۔

**معنی:** پاس: قریب، نزدیک۔ دماء: نقارے، نوبت۔

چھت: چھتر، سایہ، پنکھا۔ بھیری: با جا۔ سڈ: بول، سُرتال۔ رڑ: قصیدہ گو، شاعر۔

سُتے: سوئے۔ جیران: قبرستان، گورستان۔ تھیئے: ہوئے۔ گذ: دن

### فریدا کو ٹھے منڈپ ماثیاں اُساریندے بھی گئے

کوڑا سُودا کر گئے گوریں آئے پئے

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں اے فرید جو لوگ یہاں محل ماثیاں کوٹھیاں بنگلے تعمیر کرواتے  
رہے ہیں اور ان میں نبنتے رہے وہ اس دنیا سے وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ اس

جہان جھوٹا لین دین بیوپار کر کے گئے ہیں اور وہ بھی اپنی قبروں میں پڑے ہیں۔ محل مائزیاں بنانے والوں نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام نہیں کیا ہے۔ سب اپنی شان کے لیے بناتے رہے۔ اگر وہ اس کی بجائے کوئی رفاه عامہ کا کام کر جاتے تو انہیں موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی انسان زندگی میں وہ کام کرے جو موت کے بعد بھی اس کے کام آئے۔ اس دنیا میں ظاہری شان و شوکت نہ بنائے۔ یہ فانی ہے۔

**معنی:** کوٹھے: مکان، گھر۔ منڈپ: ہال شامیانے۔ مائزیاں: اوپری منزلیں اساریندے: تعمیر کرتے، بناتے۔ کوڑا: جھوٹا، فانی۔ سودا: لین دین، تجارت، بیوپار۔ گوریں: قبروں میں۔ پئے: پڑے، دفن۔

### فریدا کینتھڑ میخاں اُگلیاں جندنہ کائی میخ

#### واری آپو اپنی چلے مشائخ شیخ

**ترجمہ:** اے فرید گودڑی کو بے شار دھاگے ناکے لگے ہوئے ہیں۔ اسے بڑی مضبوطی سے سلاسلی کیا گیا ہے لیکن جان کو زندگی کو کوئی میخ نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس کو کوئی کیل دگا کر پختہ نہیں کیا گیا ہے۔ روح کو کسی شیخ سے نہیں جوڑا گیا ہے۔ اس لیے تمام بزرگ بزرگان اولیاء اللہ اپنی اپنی باری پہ سب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی باری پہ جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ یہاں کوئی بھی پکارہنے والا انہیں ہے۔

**معنی:** کینتھڑ: گدڑی، گودڑی (جسم کی مثال ہے)۔ میخاں: کیلیں۔ اُگلیاں: بیٹمار، دافر، زیادہ۔ جند: جان، روح، آتما۔ کائی: کوئی۔

واری: باری، بار۔ آپاپنی: اپنی اپنی۔ مشائخ، شیخ: بزرگ، برگزیدہ ہستیاں۔

### ڈوھیں دیوے بلندیاں ملک جو بیٹھا آ

#### گڑھ لیتا گھٹ لٹیا دیوڑے گیا بُجھا

**ترجمہ:** بابا جی سرکار لکھتے کہ دونوں آنکھوں کی بینائی تھیک ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یعنی آنکھوں کے دونوں چراغ روشن فرشتہ ملک الموت آیا آبیٹھا۔ اس نے قلعہ فتح کر لیا دل یعنی روح کو اپنے قفسے میں کر لیا۔ جان تکالی۔ موت دے دی اور دونوں دیکھتی ہوئی آنکھوں کو بے نور کر گیا۔ ان کی روشنی ختم کر گیا۔ دونوں چراغ بجھا دیے۔ روشنی ختم کر دی۔

**معنی:** ڈوھیں: دونوں، دو۔ دیوے: چراغ، دیے۔ بلندیاں: جلتی، روشن۔  
ملک: فرشتہ، جم۔ گڑھ: قلعہ، کوٹ۔ گھٹ لٹیا: لوٹ لیا۔ دیوڑے: دیے، چراغ

فریداً دیکھ کپا ہے جو تھیا جو سر تھیا تیلاں  
کمادے اُر کا گدے نکتے کو مکیاں

مندے عمل کماندیاں ایہہ سزا تنهاں

**ترجمہ:** بابا جی لکھتے ہیں اے فرید ذرا دیکھو کپاس کے ساتھ کیا ہوا ہے اے کتنی مشینوں،  
بلینوں سے گزارا جاتا ہے۔ اے کس طرح دھنا جاتا ہے اور مکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے  
اُنہیں کولہو میں ڈال کس طرح پیڑا کرتیل نکالا جاتا ہے۔ کماد گنے کو کیسے بلینے سے گزار کر  
اس نکالتے ہیں اور پھر کڑاہ میں ڈال کر آگ پر رکھا جاتا ہے اور کاغذ کتنی مشینوں سے نکلتا  
ہے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور ہانڈی جب کو مکوں پر رکھی جاتی ہے تو اس کا کیا حال  
ہوتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں جو لوگ اس دنیا میں بُرے اعمال کر رہے ہیں ان کی سزا بھی  
ایسی ہی ہوگی۔ انسان کو اپنے اعمال پر سوچنے کی سوچ دیتے ہیں۔

**معنی:** دیکھ: دیکھ، نظر کر۔ کپاہ: کپاس، پھٹی۔ تھیا: ہوا۔

تیلاں تیل: تیل نکالنے کے بیچ کمادے کماد: گنا، غیشکر۔ اُر: اور۔ کا گدے: کاغذ۔  
مندے: بُرے۔ عمل اعمال: کام۔ کریندیاں: کرتے ہوئے۔

تنهاں: اُنہیں، ان کو

## فریداً کندھ مصلاصوف گل دل کاتی گڑوات

باہر دستے چاننا دل آندھیاری رات

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں اے فرید کندھے پہ جانماز ہے گلے میں موٹا اون کا صوفیانہ فقیرانہ لباس ہے دل میں حسد اور بغض یعنی چھری ہے اور زبان کی باتیں گڑ کی طرح میٹھی ہیں۔ زبان بڑی شیریں ہے۔ ظاہر تو بڑا صاف اور روشن نظر آ رہا ہے لیکن دل سیاہ باطن میں اندھیرا ہے۔ یعنی ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ قول اور فعل متضاد ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے باباجی ایک پیغام دیتے ہیں کہ اپنے قول اور فعل درست کرو۔

**معنی:** کندھ: کندھا، شانہ۔ مصلا: جائے نماز۔ صوف: موٹا اونی کپڑا۔ کاتی: چھری، کارڈ۔ گل: گلے میں، زیب تن۔ وات: مٹھے، دہن۔ دستے: دکھائی دے، نظر آئے۔ چاننا: روشنی، لُو۔ آندھیاری: اندھیری

## فریداً رتی رت نہ نکلے بجئش چیرے کو ع

جو تن رتے رب سیوں تن تن رت نہ ہو ع

**ترجمہ:** اے فرید کوئی اس جسم کو چیردے نکلے کر دے اسے کاٹ ڈالے تو اس سے ایک بوندھی خون کی نہیں نکلے گا۔ ایک قطرہ خون نہیں ہو گا۔ کیونکہ جو جسم واحد تکے رنگ میں رنگے جاتے ہیں ان جسموں میں خون نہیں ہوتا ہے۔ ان میں خون نہیں رہتا ہے۔ وہ صرف اس مالک کی قدرت سے زندہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے صرف اس کا جلوہ زندگی ہوتا ہے۔

**معنی:** رتی: کم بہت، ماشہ کا آٹھواں حصہ۔ رت: خون، لہو۔ بجے: اگر۔ تن: جسم، بدن۔ چیرے: کانے۔ کو ع: کوئی۔ رتے: سرخ، لال، رنگیں۔ سیوں: سے، نے۔ تن: ان کے۔ ہو ع: ہوتی، ہوتی ہے

ایہہ تن سُبھو رت ہے رت بن تن نہ ہو ع

جو شوہ رتے اپنے بت ت ن بُوجھ رت نہ ہو ع

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں یہ جسم تمام ہو ہے خون ہے کیونکہ خون کے بغیر جسم نہیں ہوتا ہے لیکن جو مالک نے اپنے رنگ میں رنگ دیے۔ جنہیں اپنا رنگ چڑھا دیا ہے وہ جسم خون کو ایک بُوجھ سمجھتے ہیں۔ ان جسموں میں خون نہیں ہے۔ ان کے لیے خون ایک بُوجھ ہے۔ انہیں خون نہیں چاہیے ہوتا ہے۔

**معنی:** ایہہ: یہ۔ تن: جسم، بدن۔ کھیں: لا غر، دُبلا، پتلا، کمزور۔ لوبھ: لا پچ، حرص جیوں: جیسے، جس طرح۔ بُجھیز: آگ، آتش، نار، آپچ، اگنی۔ شدھ: درست، ٹھیک، خالص۔ بت: ان، وہ۔

تیوں ہر کا بھو دُر مَت میل گوا ع

فریداً تے جن سونے جو رتے ہر رنگ لاع

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں خوف خدا اس طرح صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح موتی سے میل ختم ہو جاتی ہے۔ دلوں کو صاف کر دیتا ہے کہ دورت نہیں رہنے دیتا ہے۔ اے فرید جو حسین ہیں جو خوبصورت ہیں جو رنگیں ہیں ان پہ اُسی خدا کا چڑھا ہوا رنگ ہے یہ اسی نے ہی رنگے ہوئے ہیں۔ یہ سب اُسی کی ہی عطا ہے۔

**معنی:** تیوں: جنہیں، جن کو۔ ہر: رب تعالیٰ، بھگوان، الیشور، پر بھو۔

بھو: ڈر، خوف۔ دُر: موتی، گہر۔ گواء: ختم کرے، اُتارے۔ جن: جو۔ تے: تو

فریداً سُوا ای سرور ڈھونڈھ جھوں لبھی و تھ

چھپڑ ڈھونڈیں کیا ہو وے چکڑ ڈبے تھ

**ترجمہ:** بابا فرماتے ہیں اے فرید وہ بھرا ہوا تالاب جھیل تلاش کرو جہاں سے تمہیں موتی حاصل ہوں۔ یعنی کسی ایسے کامل کو تلاش کرو جس سے تمہیں گوہر ملیں۔ جو ہڑوں میں تلاش کرنے سے کیا ملے گا سوائے کچڑ سے ہاتھ گندے کرنے کے۔ یعنی کسی نیک کی صحت اختیار کرنے سے آپ کو نفع ہوگا۔ تمہیں بھلائی کی باتیں ملیں گی اور برعے لوگوں کی صحت سے تم بھی بُرے ہی ہو جاؤ گے۔

**معنی:** سُو: وہ۔ ای: ہے۔ سر: تالاب، جو ہڑ، جھیل۔ وَر: بھرا ہوا، لبریز۔  
لیہ: اُتر، داخل ہو۔ جنھوں: جہاں سے۔ بھی: ملے، ملیں، حاصل ہوں۔  
وَتھ: موتی، گوہر، دُر۔ چچڑ: جو ہڑ، تالاب۔ چکڑ: کچڑ، دلدل۔ سر: تالاب، جو ہڑ

فریداں نڈھی گنت نہ راویو وَڈھی تھی مُبیوس  
وَھن گوکیندی گور میں تے شوہ نہ ملیوں

**ترجمہ:** اے فرید جب عورت جوان تھی تو اپنی جوانی میں وہ اپنے مالک اپنے خاوند کو راضی نہ کر سکی۔ اُسے مائل نہ کر سکی اُسے خوش نہ کر سکی اور جب بُوڑھی ہوئی تو پھر مرگی اور پھر وہ عورت اپنی قبر میں آہ و بکا کرتی رہتی ہے لیکن پھر اسے اس کا مالک نہیں ملتا ہے۔ جناب فرماتے ہیں کہ جس نے جوانی میں خدا کی عبادت نہ کی گمراہ رہا اور بڑھا پا آیا اور پھر موت نے آ لیا۔ وہ قبر میں پچھتا تا ہے آہ و پکار کرتا ہے لیکن بے فائدہ تو آپ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رب کے بندے جو وقت تمہیں ملا ہے اپنے مالک حقیقی کو راضی کرو۔ تاکہ تمہیں آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ رُسوانہ ہونا پڑے۔

**معنی:** نڈھی: جوان عورت، لڑکی۔ گنت: خاوند، شوہر، مالک، رب تعالیٰ۔  
راویا: مائل کیا، راضی کیا، خوش کیا۔ وَڈھی: بُوڑھی، بڑھا پا۔ مُبیوس: مرگی۔  
وَھن: جوان عورت، مال دوست۔ کوکیندی: چیختی چلاتی۔ گور: قبر۔  
شوہ: مالک، خاوند، رب تعالیٰ۔ ملیوں: ملا، ملاقات ہوئی۔

فریداً سر پلیا داڑھی پلی مچھیاں بھی پلیاں  
رَتَّتِ مَنْ كَهْلَيَ بَاوَلَيَ مَانِيَسْ كَيَا رَلِيَاں

**ترجمہ:** اے فرید سر میں سفیدی آگئی ہے داڑھی سفید ہو گئی ہے اور موچھیں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ ارے اے پاگل نادان دل تو ابھی بھی رنگ رلیاں منانا چاہتا ہے۔ تیری خواہشات ابھی کم نہیں ہوئی ہیں۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ اب بھی اپنی خصلتوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ باباجی کا کہنا ہے بندہ عمر کے مطابق بدل جانا چاہیے۔

**معنی:** پلیا: سفید ہوا۔ رے: ارے۔ من: دل، چت، جی۔

گھیلے: پگے، دیوانے، نادان۔ مانیس: چاہتا ہے۔ رلیاں: رنگ رلیاں، عیش و عشرت

فریداً كُوشَهُ دُھكَنْ كَتِرَادِيرْ نِينَدَرِي نوازْ

جو دِينَهَ لَدَّهَ گَانُويَسْ گَنَّهَ وِلَاظْ وِلَاظْ

**ترجمہ:** اے فرید محلوں مکانوں ان ماڑیوں میں تو کب رہے گا۔ کب تک بسیرا کرے گا اور ان نواری پلنگوں پر کب تک محو خواب رہے گا۔ کب تک ان نواری سچوں پر سوئے گا جو تمہیں زندگی کے گفتگی کے دن ملے تھے وہ ایک ایک کر کے گزر گئے۔ وہ گفتگی کے دن تم نے ضائع کر دیے۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اے بندے تو نے سدا ان مکانوں میں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ جو زندگی تمہیں مالک نے دی ہے اس کی یاد میں گزار دو۔ اے یاد کرتے رہو۔

**معنی:** کوشہ: مکان، محل، گھر۔ دھکن: دوڑنا، پھلانگنا۔ کتیرا: کتنا۔

پر: پیاری، پیارا، محبوب۔ نیندڑی: نیند۔ نواز: نوار، چارپائی بننے کا پشہ بان۔

دینہ: دن، روز، یوم۔ لدھے: ملے، عطا ہوئے۔

گانویں: گفتگی کے شمار کیے ہوئے۔ ولاظ: گزر، پیٹ

فریدا کوٹھے منڈپ مال نہ لاعمر گستانی چت وَھر

سایی جائے سنبھال جتھے ہی ٹوں وَنجان

**ترجمہ:** اے فرید یہ مکان یہ گھر یہ محل اور یہ مال و دولت نہ دیکھ ان سے محبت نہ کران کے لیے نہ پریشان ہو۔ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم صرف اپنے من قبرستان کا خیال کرو۔ اپنی قبر کی طرف خیال کرو۔ جس میں تم نے جانا ہے اور اُسی میں محشر تک رہنا ہے۔ اُسے اپنا گھر سمجھو۔ اسے سنبھال جہاں تو نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور تمہارا اصل ٹھکانہ ہے اس کا خیال کرو۔

**معنی:** کوٹھے: مکان، محل، گھر۔ ماڑی: ڈیوڑی۔ منڈپ: ہال نما شامیانہ۔ لاء: لگا۔ مرگستان: قبرستان، گورستان۔ وَھر: رکھ۔ سایی: وہی، وہی۔ جتھے: جہاں، جس جگہ۔ وَنجان: جانا

فریدا جنہیں کمیں نہ گن تے گھڑے وسار

مَتْ شرمندہ تھیویں سائیں دے دربار

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں اے فرید جن کاموں سے کوئی فائدہ نہیں جن میں کوئی خوبی نہیں ہے بھلائی نہیں ہے۔ ان کاموں کو بجھل جان کا دل میں خیال نہ ل۔ ایسے کام ہرگز نہ کر۔ اس لیے کہ ایسے کاموں کی وجہ سے تمہیں اپنے مالک کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ جن کاموں سے شرمندگی اٹھانی پڑے وہ تمام چھوڑ دے۔ ان کے بارے ہرگز نہ سوچ۔

**معنی:** جنہیں: جن کو، جن سے۔ کمیں: کاموں، کام۔ گن: خوبی، بھلائی، فائدہ کھڑے: کام، کاج۔ وسار: بھول جا۔ تھیویں: ہو۔ سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔ دربار: بارگاہ، مزار۔

فریداً صاحب دی کر چاکری دل دی لاه بھراند

در ویشاں نوں لُڑیے رکھاندی جیراند

**ترجمہ:** اے فریداً پنے مالک کی اطاعت کر اُس کے احکام پر عمل کر اُس کا بندہ بن اُس کی غلامی کرو اور اپنے دل سے میل کدو رت اتار دو اپنے دل کو صاف کرو۔ دل میں اُسی کی لوگاؤں جیسے فقیروں کو درختوں جیسے حوصلے اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خود ڈھوپ برداشت کرتا ہے اور دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ اسی طرح فقیر زمانے کی باتیں سن کر برداشت کرتا ہے اور بھلاندی کرتا ہے۔

**معنی:** صاحب: مالک، رب تعالیٰ۔ چاکری: غلامی، نوکری۔ دل دی: دل کی۔

لاہ: اتار۔ بھراند: بھڑاس، میل، کھوٹ۔ در ویشاں: فقیر اس، جو گیا۔

لُڑیے: ضرورت، تلاش۔ رکھاں: درختوں، پیڑوں، شجروں، شجارات۔

جیراند: برداشت، حوصلہ

فریداً کا لے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس

گناہیں بھریا میں پھراں لوک کہیں درویش

**ترجمہ:** اے فرید سیاہ ہی میرا بیاس ہے اور سیاہ ہی میرا پہنادا ہے۔ میں گناہوں سے بھر پور ہوں اور لوگ مجھے فقیر کہتے ہیں۔ بابا جی اپنی ننھی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے فرید سیاہ تیرا بیاس ہے اور سیاہ ہی تیرا پہنادا ہے۔ تو گناہوں خطاؤں پر ہے اور لوگ تجھے فقیر بزرگ کہتے ہیں۔

**معنی:** کا لے: سیاہ، اسود۔ مینڈے: میرے۔ ویس: پہنادا، بیاس۔

لوک: لوگ، مخلوق، خلقہت۔ کہیں: کہتے ہیں

تَتْ تَوْءِ نَهْ لَپُوَّ بَجَ جَلْ بُجَّهْ دَهْ

فَرِيدُّا جَوْ دَوْهَاَكْنَ رَبْدِي جَحُورِينْدِي جَحُورَے

**تمہرہ جمسمہ:** جناب فرماتے ہیں کہ جس پودے کی جڑیں جل چکی ہوں جس کی بد نصیبی ہو جائے۔ اس کی کتنی بھی آبیاری کریں۔ وہ ہر انہیں ہو سکتا ہے وہ نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اے فرید جو خداوند تعالیٰ کی ٹھکرائی ہوئی دھتکاری ہوئی ہے۔ وہ تمام عمر اپنے رنج والم بیان کرتی رہتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جن کے دل مالک کی یاد سے غافل ہو جائیں اور سیاہ ہو جائیں وہ دوبارہ رجوع کے قابل نہیں رہتے اور زندگی بھر پچھتاوے میں رہتے ہیں۔

**معنی:** تت: گرم، جلی، بد نصیب۔ لپوے: ہوئے، بڑھے۔ بج: اگر۔

جل: پانی، آب۔ بجھی: غوطہ۔ دوہاگن: ٹھکرائی ہوئی، دھتکاری ہوئی۔

جھورہندی: دکھ بیان کرتی، پچھتا تی۔ جھورے: دکھ، غم، پچھتاوے۔ دی: کی

جاں کواری تاں چاؤ وِواہی تاں مائلے

فَرِيدُّا اِيْهُو پَچْهُو تَأَوْ وَتْ كَوَارِي نَهْ تَحْيَيْ

**تمہرہ جمسمہ:** اے فرید جب کنواری تھی تو بڑا شوق تھا کہ میری بھی شادی ہو جائے میں بھی سہاگن بنوں مجھے بھی میرا اور مل جائے لیکن جب بیاہی گئی تو اور مسائل جھگڑے شروع ہو گئے۔ پریشانی آن پڑی۔ اے فرید وہ تمام عمر ان میں پچھتا تی رہتی ہے لیکن وہ دوبارہ کنواری نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے۔ وقت کی قدر کردا اور ہر کام وقت پر کرو۔

**معنی:** جاں: جب۔ کواری: کنواری، غیر شادی شدہ۔ چاؤ: شوق۔

وِواہی: سہاگن، شادی شدہ۔ تاں: تب، اُس وقت۔ مائلے: مسائل، جھگڑے۔

ایہو: تھی، ایسے ہی۔ پچھوتا: پچھتاوا، افسوس، ارمان۔ وت: پھر، دوبارہ۔

تحییئے: ہو، ہوتی

کلر کیری چھپڑی آئے لتھے ہنجھ

چُجو بُوڑن نہ پیون اُڈن سندی ڈنجھ

**ترجمہ:** کل راتھی زمین میں ایک چھوٹی معمولی چھپڑی پانی کا گڑھا تھا۔ اس میں ہنس آتے۔ وہ اس میں اپنی چوچ ڈبوتے تھے لیکن وہ اس سے پانی نہیں پیتے تھے۔ انہیں تو بس وہاں سے اڑ جانے کی جلدی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد یہاں سے اڑ جائیں۔

**معنی:** کلر: تھور زدہ زمین۔ کیری: معمولی، چھوٹی سی۔ چھپڑی: چھوٹا تالاب۔  
لتھے: اترے۔ ہنجھ: ہنس پرندہ، آنسو۔ چُجو: چوچ، منقار۔ بُوڑن: ڈبوئیں۔

پیون: پیس، پیتے۔ اُڈن: اڑنے۔ سندی: کی۔ ڈنجھ: پیاس، تَس، جلدی

ہنس اُڈرے کو دھرے پیا لوک و ڈارن جاء

گیہلا لوک نہ جاندا ہنس نہ کو دھرا کھاء

**ترجمہ:** لوگ ہنوں کو اڑانے جاتے ہیں اور وہ باجرے کے باریک دانے پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ نادان لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہنس تو یہ باجرے کے دانے کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی خوراک تو موتی ہیں۔ وہ تو موتی کھاتے ہیں۔ وہ تو کسی بھی اناج کے دانے نہیں کھاتے ہیں۔

**معنی:** ہنس: ایک آبی پرندہ۔ اُڈرے: اُڑے۔ کو دھرے: باجرہ، غله دانے۔  
پیا: پڑا۔ لوک: لوگ، خلق۔ و ڈارن: اڑائیں۔ گیہلا: پاگل، نادان، کملہ۔  
جاندا: جانتا۔ کو دھرا: باجرہ اناج۔ کھاء: کھاتا، چگتا۔

چل چل گیاں پنکھیاں جہاں وساۓ تل

فریدا سر بھریا بھی چلسی ٹہکے کنول اکل

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں کہ وہ پرندے یعنی وہ خدا کی مخلوق وہ بندے اس دنیا فانی سے چلتے گئے جنہوں نے اس دنیا کو آپا دکیا۔ اس دنیا کی رونق بڑھائی۔ یہ دنیا بسائی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام بھرا ہوا تالاب یعنی تمام دنیا ختم ہو جائے گی لیکن صرف وہ واحدہ لاشریک باقی رہے گا۔ باقی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی مٹ جائے گی بے نشان ہو جائے لیکن وہ ذات باقی رہے گی۔

**معنی:** چل چل گیاں: چلے گئے، رخصت ہوئے۔ پنکھیاں: پرندے، جانور (انسان) جنہیں: جنہوں نے۔ وسائے: بسائے آباد کیے۔ تل: تالاب، جوہر۔ سرتالاب: بھرا ہوا تالاب، بھری دنیا۔ چلسی: چلا جائے گا۔

ہمکے: شان و شوکت سے، عظیم الشان۔ کنوں: نیلوفر۔ اکل: اکیلا، واحد، لاشریک

فَرِيدُّاَثْ سَرَهَانَ بَهْوَمَيْنَ سَوْنَ كَيْرُ الْكَرْيُومَاس

كَيْرُوْيَاَنْ جَكْ وَأَپْرَےِ إِكْتْ پِيَاَنْ پَاسْ

**ترجمہ:** اے فرید مٹی کا سرہانہ زمین پر سوئے گوشت کو کیڑے کھا گئے۔ ہڈیاں مٹی کھائی ایسے ہی جنہیں زمانے بیت گئے۔ ایک ہی پہلو پہ لیئے لیئے زمانے گزر چکے ہیں۔ وہ کروٹ بھی نہیں بدلتے۔ اصل آپ بندوں کو احوال قبر بتار ہے ہیں کہ قبر میں انسان بے بس ہو گا اور نہ جانے کب تک اسی حالت میں پڑا رہے گا۔

**معنی:** اث: اینٹ، مٹی۔ بھوئیں: زمین، دھرتی، مٹی۔ سون: سونا، لیٹنا۔ لڑیو: ڈنک مارے، گوشت کھانا۔ ماس: گوشت۔ کیڑیاں: کیڑوں نے۔ کیڑیزیاں: کتنے، کتوں نے۔ جک: جہان، زمانہ، دنیا، عالم، کائنات۔ واپرے: پیش آئے، گزرے، بیتے۔ پاس: طرف، پہلو۔

فَرِيدُّاَ بَهْنَىْ گَهْرِي سَوْنُويْ ٹُشِّي نَاغْرِج

عَزْرَايِيلْ فَرِيشَةَ كَيْنَ گَهْرَنَاثِي أَجْ

**ترجمہ:** اے فرید زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دیا بر باد کر دیا۔ غفلت میں گزار دیا۔ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ مالک کی عبادت نہ کی اُسے یاد نہ کیا اور آج دیکھنے ملک الموت فرشتہ کس کا مہمان بتا ہے کس گھر میں جاتا ہے۔ یہ نازک خوبصورت جسم ایک مٹی کی خوبصورت گھڑی بے جان ہو گیا۔ سانسوں کی ڈورٹوٹ گئی اور آج موت کا فرشتہ دیکھنے کس گھر کا مہمان بتا ہے۔ کس گھر جاتا ہے۔

**معنی:** بھتی: توڑی، بر باد کی۔ گھڑی: وقت، پانی کی ملکی۔ سونوی: قیمتی، سونے جیسی ٹوٹی۔ ناگر: حسین، مضبوط، کمپی۔ لمح: عزت، پت، کنویں سے پانی نکالنے کی رستی کیس: کس۔ ناخنی: جائے گا۔ آج: آج، امروز۔

### فَرِيدًا بَهْتَنِي گَھَرِي سَوْنَوِي ڈُٹِي نَاگَرِ لَج

جو بَحْنِ بُھوَمِيں بَهَارِ تَھِيَّ سے کیوں آؤں ان

**ترجمہ:** اے فرید زندگی غفلت میں گزار دی ضائع کر دی بر باد کر دی۔ وعدہ کر کے وفا نہ کی لیکن جو پیارے زمین کے بوجھ تلے دب چکے ہیں جو اپنی قبروں زمین میں چلے گئے ہیں۔ وہ آج کہاں آئیں گے۔ وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ جو یہ دنیا چھوڑ جائے۔ وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے۔

**معنی:** بھتی: توڑی، پھوڑ دی۔ گھڑی: وقت، پانی کی ملکی۔ سونوی: قیمتی، سونے جیسی ٹوٹی۔ ناگر: حسین، مضبوط، کمپی۔ لمح: شرم، پت، ڈوری۔ بھن: پیارے، محبوب۔ بُھوَمِيں: زمین دھرتی۔ بھار: بوجھ، وزن، بار۔ تھیے: ہوئے۔ آؤں: آئیں

### بَلِ نَمَازًا كُتِيَا إِيَهُ نَهْ بَھَلِي رِيَت كَبِيِّ چَلِ نَهْ آيَا پَنجِي وَقْتِ مَيِّت

**ترجمہ:** بے نماز کتے یہ تمہاری بھلی رسم تمہاری اچھی عادت نہیں ہے کہ تم نے احکام الٰہی سے گمراہی اختیار کر لی ہے اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے پانچ وقت مسجد میں نہیں آیا ہے۔ یہ تمہاری اچھی بات نہیں ہے۔

**معنی:** کُتیا: اے کتے۔ ریت: رسم، روانہ۔ پنج وقت: پانچ وقت۔ مسیت: مسجد

### اُٹھ فریدؒ وضو ساز صحیح نماز گزار

جو سر سائیں نہ نویں سو سر کپ اُتار

**ترجمہ:** اے فرید اٹھو وضو کرو اور نماز فخر ادا کرو۔ خدا کی عبادت کرو اور جو سراپے خدا کے سامنے بجداہ ریز نہ ہو وہ سر کاٹ کر پھینک دو۔ ایسا سر نہیں چاہیے جو خدا کے سامنے نہ بھکے۔

**معنی:** اُٹھ: اُٹھو، جاؤ۔ ساز: بناؤ۔ سائیں: مالک، خداوند تعالیٰ۔

نویں: بھکے، بجداہ ریز ہو۔ سو: وہ، وہی۔ کپ: کاٹ۔

### جو سر سائیں نہ نویں سو سر کیجیے کائیں

گئے بیٹھ جلایئے بالن سندے تھائیں

**ترجمہ:** جو سراپے ربَّ سامنے جھکتا نہیں ہے۔ بجداہ ریز نہیں ہوتا ہے اس سر کو کیا کرنا ہے اس سر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سر کو چولہے میں ایندھن کی جگہ دیکھی کے نیچے جلا دینا چاہیے۔ ایسے سر کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا سر کی کام نہیں۔

**معنی:** سائیں: مالک، خدا۔ نویں: بھکے۔ سو: وہ۔ کیجیے: کریں۔ کائیں: کیا۔

گئے: ہنڈیا، دیکھی۔ بیٹھ: نیچے۔ جلایئے: جلا میں۔ بالن: ایندھن۔ سندے: کے۔

تھائیں: جگہ

فریدا کتھے تیرے مارے آ جنہیں توں جنیوں

تین پاسوں اوہ لد گئے توں اجے نہ پتوں

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے فرید آج تمہیں جنم دینے والے تمہارے والدین کہاں ہیں جنہوں نے تجھے جنم دیا تمہیں پالا پوسا۔ وہ تیرے سامنے اس دنیافانی سے چلے گئے۔ وہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے پاس سے رخصت ہو گئے۔ اے فرید تمہیں ابھی یقین نہیں ہے۔ تمہیں ابھی بھی اعتبار نہیں آیا ہے کہ یہ دنیافانی ہے یہاں سے سب نے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔

**معنی:** کتھے: کہاں، کس جگہ۔ تینڈے: تیرے، تمہارے۔ مارے: والدین جنہیں: جنہوں نے۔ جنیوں: جنم دیا، پیدا کیا۔ تین: تم، تو۔ پاسوں: قریب سے۔ لد گئے: چلے گئے، رخصت ہوئے۔ اجے: ابھی، اب بھی۔ پتوں: تسلی، یقین ہوا

فریدا من میدان کر ٹوٹے پتے لاہ

آگے مول نہ آوی دوزخ سندی بجاہ

**ترجمہ:** اے فرید اپنے دل کو صاف کرو۔ حد بعض کدو رتیں صاف کر دو۔ اپنے دل سے برا بیاں نکال دو۔ اپنے دل کو میدان کی طرح صاف کر دو اور پھر محشر میں تمہیں جنم کی آگ کا ڈر نہیں رہے گا۔ دوزخ کی آگ تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔

**معنی:** من: دل جی، چوت آگے: آگے ٹوٹے: گڑھے۔ پتے: میلے۔ لاہ: مٹا دے، ختم کر دے۔ مول: بالکل، ہرگز۔ آوی: آئے گی۔ سندی: کی۔ بجاہ: آگ، آتش، مار

فریدا خالق خلق میں خلق وستے رب ما نہہ

مندا کسوں آ کھئے جاں تسب بن کوئی نا نہہ

**ترجمہ:** اے فرید مخلوق پیدا کرنے والا خلقت میں ہے اور مخلوق خدا میں بستی ہے۔ کیونکہ ہر انسان میں وہ رب موجود ہے۔ کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر کے برا کہیں تب اس کے بغیر کوئی ہے، ہی نہیں ہے۔ وہ ہر میں موجود ہے۔

**معنی:** خالق: پیدا کرنے والا، خد اتعالیٰ۔ خلق: مخلوق، لوگ، لوکائی۔  
وَسْتَ: بے۔ مانہہ: میں۔ مندا: برا۔ آ کھئے: کہیے، کہیں۔

جاں: جب۔ تِس: اُس، اُس کے۔ بن: بغیر، بنا۔ نانہہ: نہیں ہے

کوک فریدا کوک راکھا جیوں جوار

جب لگ ٹانڈہ نہ گرے تب لگ کوک پکار

**ترجمہ:** اے فرید اپنے مالک کو پکارتے رہوں کا ذکر کرتے رہو۔ جس طرح کمی کی فصل کی رکھوائی کرنے والے جانوروں کو فصل سے دور بھگانے کے لیے پکارتار ہتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے مالک کو پکارتے رہو جب تک جسم میں جان ہے سانسوں کی ڈوری نہیں ٹوٹتی ہے۔ اُس کے سامنے عاجزی جاری رکھو۔ ذکر کرتے رہو، پکارتے رہو۔

**معنی:** کوک: پکار۔ راکھا: رکھوala، نگہبان، محافظ۔ جیوں: جیسے، جس طرح۔ جوار: کمی کی فصل۔ تب لگ: اُس وقت تک۔ ٹانڈہ: پودا، تناء۔ تب: اُس

فریدا جیس دینہہ نالا کپیا جے گل کتی پچکھے

پون نہ اتی مالے سہاں نہ اتی دکھ

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ اے فرید پیدا کش کے وقت ماں کے پیٹ میں خوراک ملنے والی نالی (ناڑو) جس وقت کا ناگیا تھا اگر اسی وقت ہی تھوڑا گلا کاٹ دیتے تو نہ ہی یہ دنیا کے مسائل دکھنے پڑتے اور نہ ہی یہ مشکلات برداشت کرنی پڑتیں۔

**معنی:** جیس: جس، جب۔ کتی: کاثی، کاثا۔ دینہہ: دن، روز، یوم۔

نالا: نازد، خوراک کی نالی۔ کپیا: کانا۔ بے: اگر۔ گل: گلا، گردن، شرگ۔  
وچکھ: تھوڑا سا۔ پون: پڑیں، پیش آئیں۔ اتی: اتنے، ایسے۔ مالے: مسائل، جھگڑے  
سہاں: برداشت کرو

### فریدا میں نوں منجھ کرنگی کر کے گٹ

بھرے خزانے ربدے جو بھاوے سُولٹ

**ترجمہ:** اے فرید اپنی میں یعنی تکبر و غرور کو ختم کر دے دل سے نکال دے۔ ان کا تمہارے دل میں نام و نشان نہ رہے۔ اس مالک کے سامنے عاجزی اکساری اختیار کرو اور خداوند تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر جو تم چاہو وہ حاصل کرو۔ جو تم چاہو گے وہ مالک تمہیں عطا کرے گا۔ اُس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں تکبر کو نہایت عاجزی سے ختم کرو جس طرح منجھ کو کوت کر باریک کر دیتے ہیں۔

**معنی:** میں: مان، تکبر، غرور۔ منجھ: بان بنانے کے لیے کانے کا چھلکا۔ گٹ: کوت  
رنگی: باریک۔ بھاوے: پسند آئے، چاہے۔ سُو: وہ۔ سُولٹ: لوت، حاصل کر

### چین چلن رتن سے سُنییر بھی گئے

ہیڑے مٹی ڈھاہ سے جانی چل گئے

**ترجمہ:** دانت ٹانگیں آنکھیں کان بھی چلے گئے سنائیں جاتا ہے چلانہیں دیکھا۔ دیکھنے کی بینائی نہیں رہی۔ دانت نہیں کھانا نہیں کھایا جاسکتا ہے۔ دل نے درد بھری آہ ماری کہ سینکڑوں ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جو اس دنیافالی کو چھوڑ گئے ہیں۔

**معنی:** چین: دانت، کھانے والے، چبانے والے۔ چلن: ٹانگیں۔ رتن: آنکھیں۔  
سُنییر: کان سننے والے۔ ہیڑے: دل نے، من نے۔ مٹی: بھیجی۔

ڈھاہ: درد بھری آواز۔ سے: سینکڑوں۔ جانی: دوست، پیارے، ساتھی۔ چل گئے: چلے گئے

فریداً بُرے دا بھلا کر غصہ من نہ ہنداعِ

دیہتی روگ نہ لگ ای پلے سبھ کجھ پاءِ

**ترجمہ:** اے فرید جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی نہیں کر بلکہ بھلانی کر۔ دل میں غصہ نہ لا و اس کا برانہ مناؤ۔ اس کا صلہ تمہیں خدادے گا۔ تمہارے جسم میں کوئی مرض لا حق نہیں ہو گا اور تمہیں سب کچھ حاصل ہو گا۔ تمہیں خداوند تعالیٰ اس کی جزادے گا۔

**معنی:** من: دل، چوت، جی۔ ہنداع: لا۔ دیہتی: جسم، بدن۔ روگ: مرض، بیماری لگ ای: لگے گا۔ پلے: دامن، جھولی۔ سبھ: سب، تمام، کل۔ کجھ: کچھ۔ پاء: پاؤ، حاصل کرو، ملے گا

فریداً پنکھ پروہنے ڈنی سہاوا باع

نوبت وَجَی سیوں چلن کا کر کاج

**ترجمہ:** اے فرید یہ دنیا ایک باع ہے اور اس میں بنے والے مختلف پرندوں کی طرح مہماں ہیں۔ جس طرح باع میں پرندے سدا نہیں رہتے اسی طرح اس دنیا کو ہر ایک نے چھوڑنا ہے۔ بس موت کا نقارہ بنجئے ہی والا ہے۔ اے فرید تم بس یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ یہاں سے جانے کا بندوبست کرو۔ اس جگہ کا سامان کرو جہاں جانا ہے۔

**معنی:** پنکھ: پرندے، جانور۔ پروہنے، مہماں۔ ڈنی: دنیا، جہاں، زمانہ۔ سہاوا: سرسبز، ہرابھرا۔ نوبت: نقارہ۔ وَجَی سیوں: بنجئے ہی والی ہے۔ چلن: چلنے۔ کاج: کام، بندوبست

فریداً رات کٹھوری وَنڈیے سُتیاں ملے نہ بھاؤ

دھہاں نئین نندراو لے تھاں ملن کواؤ

**ترجمہ:** اے فرید رات کو ستوری خوشبو بائی جاتی ہے جو جاگتے ہیں مالک کا ذکر کرتے ہیں۔ اُس کی عبادت کرتے ہیں انہیں ملتی ہے اور جو سوئے ہوتے ہیں انہیں پکھنہیں ملتے خالی رہ جاتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں نیند ہے جو سونے والے ہیں ان کو وہ کیوں ملے گی۔ وہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔

**معنی:** کثھوری: ستوری، مہک، خوشبو۔ ونڈیئے: بانٹئے۔ بھاؤ: قیمت، در۔ نین: آنکھیں، عین، چشم۔ نیندراوے: نیند کی خماری سے بھرے۔ تہاں: ان کو۔ ملن: ملندا کو او: کیا

---

فریدا میں جانیا دکھ منجھ کو دکھ سجھا ایہہ جگ  
اپے چڑھ کے دیکھا تاں گھر گھر ایہا آگ

**ترجمہ:** اے فرید تو نے سمجھا کہ صرف میں ہی دکھی ہوں دکھ صرف میرے لیے ہی ہیں لیکن یہ تو تمام جہاں دکھی ہے۔ ہر کوئی دکھوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب زمانے میں پھرے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ہر گھر میں یہی حال ہے۔ اسی طرح دکھوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اسی آگ میں جل رہا ہے۔

**معنی:** جانیاں: جانا۔ منجھ: مجھے۔ سجھا: تمام، کل، سب۔ جگ: جہاں، دُنیا  
اپے: اونچے۔ تاں: تب، پھر۔ ایہا: یہی، یہی۔ آگ: آگ، آتش، بار، آنچ

---

فریدا بھوم رنگاوی منجھ و سولا باغ  
جو جن پیر نوازے آ تہاں آنچ نہ لाग

**ترجمہ:** فرید یہ دُنیا بڑی رنگیں ہے بڑی خوبصورت ہے۔ یہ دھرتی بڑی سربز ہے۔ لیکن یہ میں نے جانا یہ کوئی زہریلا کاثوں کا باعث ہے۔ میرے لیے کاثوں کی تیج ہے لیکن جن پر پیر مرشد کی نظر ہے جو مرشد نے نوازے ہیں مہربانی کی ہے انہیں کوئی خطرہ

نہیں ہے انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔

**معنی:** بھوم: زمین، دھرتی۔ رنگاوی: رنگیں، خوبصورت۔ منجھ: میں۔ رسول: زہریلا جن: آدمی، انسان، بندے، جنہیں۔ پیر: مرشد، رہبر، راہنماء۔ نوازے: مہربانی کی۔ تہاں: انہیں، ان کو۔ آنج: آگ، آتش، نار، نقصان۔ لاغ: لگے

فریدؒ اُغمِر سہا وڑی سنگ سونزی دیہہ

ورلے کئی پائیں جہاں پیارے نیہنہ

**ترجمہ:** اے فرید یہ زندگی بڑی حسین ہے اور ساتھ یہ جسم بھی خوبصورت ہے سونے جیسا ہے لیکن دنیا میں خاص کم لوگ ہی ایسے ہیں جنہیں اپنے محبوب کا پیار محبت نصیب ہوتی ہے۔ جن پر مالک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ان پر ان کا مالک راضی ہوتا ہے۔ جن کو مالک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

**معنی:** سہا وڑی: حسین، خوبصورت۔ سنگ: پتھر، ساتھ۔ سونزی: سونے جیسی۔ دیہہ: جسم، بدن۔ ورلے: کوئی کوئی، خاص۔ پائیں: پاتے ہیں۔ جہاں: جن کو، جنہیں نیہنہ: پیار، محبت عشق

گندھی وہن نہ ڈھاں توں بھی لیکھا دیونا

جدھر رب رضا وہن مذاوں گوہ کرے

**ترجمہ:** اے دریا کے بہاؤ اے پانی کے بہاؤ کنارے نہ گرا آخروں نے ایک دن حساب دینا ہے۔ تم سے بھی جواب طلبی ہو گی تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ مالک کی جس طرف رضا ہو بہاؤ بھی اس طرف رُخ کرتا ہے۔ رب کی رضا کے بغیر بہاؤ نہیں چل سکتا ہے۔ بہاؤ تو کیا اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ جو اس دنیا کا مالک ہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔

**معنی:** کندھی: کنارہ، ساحل۔ وہن: بہاؤ۔ ڈھاہ: گرانا۔ تو: تم۔  
لیکھا: حساب، جواب۔ دیونا: دنیا۔ رضا: مرضی۔ تداوی: تب، اس طرف۔  
گوہ: رُخ منہ

فریداڑ کھاں سیتی ڈینہہ گیا سولاس سیتی رات

کھڑا پکارے پاتنی بیڑا گپر وات

**ترجمہ:** اے فرید دکھوں میں پریشانیوں میں دن گزرا ہے اور کانٹوں پر رات گزری ہے۔ کہیں بھی سکون نہیں ملا ہے۔ بیڑے کا ملاح کھڑا پکار رہا ہے اور بیڑا اگر داب میں گھر گیا ہے۔ بیڑا بھنور میں پھنس چکا ہے۔

**معنی:** ڈکھاں: ڈکھ، پریشانی۔ سیتی: سے، ساتھ۔ ڈینہہ: دن، روز، یوم۔  
سولاس: خار، کائٹ۔ پاتنی: ملاح جھیل۔ گپر: گرداب بھنور۔ وات: منہ، رُخ

لئی لئی ندی وہے گندھی کیرے ہیبت

بیڑے نوں گپر کیا کرے جے پاتن ہوئے سچیت

**ترجمہ:** اس وسیع و عریض دنیا میں انسان کی زندگی ایک ندی کی طرح ہے اور موت ایک پانی کے بہاؤ کی طرح ہے جو ہرگز رتے ہوئے دن اس کی زندگی کے کنارے گرارہی ہے۔ ہر دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت موت اس کے کنارے کاٹ رہی ہے اور نیچے گرا رہی ہے اور انسان ایک دنیا کے گرداب میں گھرا ہوا ہے۔ زندگی کی کشتی بھنور میں ہے لیکن اگر انسان مالک کے احکام سے غافل نہیں ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ مالک کی نگاہ و کرم ہے تو اس کی کشتی اس بھنور سے نکل جائے گی۔

**معنی:** لئی: لمبی، طویل۔ بھئے: بھتی۔ کندھی: کنارہ، دیوار۔ کیرے: گرائے۔

ہیبت: نیچے۔ پاتن: ملاح جھیل، ناخدا۔ سچیت: ہوشیار

فریداً گلیں سن جن ویہہ اک ڈھونڈھیندی لہاں

ڈھکھاں جیوں مالیہہ کارن تہاں ما پری

**ترجمہ:** اے فریدؒ میں نے اپنے محبوب کے بیسیوں احکامات با تیں سینیں لیکن کسی ایک پر بھی عمل کر کے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکا۔ کوئی نفع نہ لے سکا اور اب میں پچھتاوے میں اپلوں کے چوران کی طرح ڈھک رہا ہوں سلگ رہا ہوں۔ جس طرح وہ سلگ رہے ہوتے ہیں اب اس محبوب کے لیے اپنے پیارے کے لیے اندر ہی اندر سلگ رہے ہوں۔ اُس کے وصال کے لیے پریشان ہوں۔

**معنی:** گلیں: با تیں، گفتگو، نصیحتیں۔ جن: محبوب، پیارا، دوست۔ ویہہ: میں ڈھونڈھیندی: تلاش کرتی۔ لہاں: حاصل کروں۔ ڈھکھاں: سلگتی۔

مالیہہ: چوران، باریک، اپلوں کا چوران۔ کارن: کے لیے۔ تہاں: اُن کے لیے مارپری: پیارا محبوب، جانی، دوست

فریداً ایہہ تن بھونکنا نت نت ڈکھے کون

کتنیں بُجے دے رہا وکتی وَگے پُون

**ترجمہ:** اے فرید یہ جسم کتے کی طرح لا پھی ہے ہمیشہ بھونکتا رہتا ہے۔ ہر خواہش کہتا ہے پوری کرو۔ اس کی حرث ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے کون ہر وقت ڈکھی پریشان رہے۔ اس لیے میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونے رکھتا ہوں۔ یہ جتنا بھی شور کرے مجھے آواز نہ آئے۔ میں اس کی بات نہ سنوں۔ اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جائے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ بھونکنا: بھونکنے والا۔ نت: ہمیشہ، سدا۔

کتنیں: کانوں میں۔ بُجے: روئی کے بھڑے۔ رہاں: رہوں۔

وکتی: کتنی۔ وَگے: چلے۔ پُون: ہوا

فریداً اَرْبَكْجُورِیں پگیاں مَاکھیوں نئیں وَهُن

جو جو وَنْجَہ ڈِنْہِرَا سُو عَمَرْ هَتَّھِ پُون

**ترجمہ:** اے فریدرب نے کھجوریں پکاریں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں کسی چیز کی کوئی  
کمی نہیں ہے لیکن جو جو دن گزر رہا ہے وہ زندگی کو کم کر رہا ہے۔ زندگی کو ہاتھ ڈال رہا  
ہے۔ زندگی کو گھٹانے جا رہا ہے۔

**معنی:** کھجوریں: کھجوریں۔ مَاکھیوں: شہد، عسل۔ نئیں: ندی، نہر۔

وَهُن: بھیں، بھتی ہیں۔ جو: ہر۔ وَنْجَہ: جائے، گزرے۔ ڈِنْہِرَا: دن، یوم، روز

سُو: وہ۔ عَمَرْ: زندگی۔ هَتَّھِ پُون: ہاتھ ڈالتا ہے، کم کرتا ہے گھٹاتا ہے

فَرِیداً تَنْ سِكَا پِنْجِرْ تَهِيَا تَلِيَا گُهُونْڈِیں كَأْغ

أَبْجَهْ سُوَرَبْ نَهْ بُو ہُرْ یُو وَيَكْهِ بَنْدَ دَے بَهَّاَغ

**ترجمہ:** اے فرید جسم سوکھ گیا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے اور کوئے تکوے نوچ  
رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان کے مقدر دیکھئے کہ ابھی تک اپنے مالک کا اپنے رب کا  
قرب حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ابھی تک اس کا مالک اس پر راضی نہیں ہوا ہے۔ اپنے  
مالک کو خوش نہیں کر سکا ہے۔ مالک کی ابھی تک اس پر نگاہ کرم نہیں ہوئی ہے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ کَأْغ: کوئے، زاغ۔ سِكَا: سوکھا، سوکھ گیا۔

پِنْجِرْ: ڈھانچہ۔ تَهِيَا: ہوا۔ گُهُونْڈِیں: نوچیں۔ أَبْجَهْ: ابھی۔ سُوْ: تک، وہ۔

بُو ہُرْ یُو: پہنچا، قرب حاصل ہوا۔ بَهَّاَغ: نصیب، مقدر، برات

كَأْغاَ كَرْنَگ ڈِھُونْڈَو لِيَا سَكَلا كَحَايُو مَاَس

إِيْهَهِ دَوْ نَيَنَاَل مَتْ چَھُو ہِيُو پَرْ وَيَكْهَنْ كَي آس

**ترجمہ:** اے ہڈیوں کے ڈھانچے تلاش کرنے والے کوئے، اے گوشت تلاش کرنے والے کوئے، تم تمام گوشت نوچ لینا۔ سارا گوشت کھالینا لیکن ان میری دونوں آنکھوں کو نہ چھیڑنا۔ انہیں ہرگز نہ چھونا۔ کیونکہ انہیں ابھی اپنے محبوب، اپنے مالک کے دیدار کی امید ہے۔ یہ اپنے رب کا دیدار دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ مالک کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں۔

**معنی:** کاگا: اے کوئے، اے زاغ۔ کرنگ: ہڈیوں کا ڈھانچہ۔

ڈھونڈ دلیا: اے تلاش کرنے والے۔ سگلا: تمام، سب، پورا۔ کھایو: کھالینا۔

ماں: گوشت۔ نیناں: آنکھیں، چشم، دیدے۔ چھوہیو: چھونا، چھیڑنا۔

پر: محبوب، مالک، رب تعالیٰ

کاگا سبھ ٿن کھائیو چن چن کھائیو ماں

دو ڻین مَت کھائیو پر ویکھن کی آس

**ترجمہ:** اے کوئے تمام جسم تمام بدن کھالینا اس سے چن چن کر تمام گوشت نوچ لینا لیکن میری ان دونوں آنکھوں کو نہ چھیڑنا انہیں نہ چھونا کیونکہ انہیں ابھی اپنے رب کی اپنے مالک کے دیدار کی امید ہے۔ آس ہے انتظار ہے۔ یہ اپنے مالک کا دیدار کرنا چاہتی ہیں۔

**معنی:** کاگا: اے کوئے۔ سبھ: تمام، کل، سب۔ کھائیو: کھالینا۔ ماں: گوشت

ڻین: آنکھیں، چشم، عین، لوئن۔ پر: محبوب، پیارا، مالک۔ آس: امید، انتظار

کاگا نین نکاس ڏوں ٿوپی کے رُخ لے جا

پہلے درس دکھائے کے پاچھے یلچے کھا

**ترجمہ:** اے کوئے اے زاغ میں تمہیں اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دے دیتا ہوں اور تو ان کو میرے محبوب میرے مالک کے پاس لے جا اور پہلے انہیں مالک کا دیدار کرالیں مالک کا جلوہ دکھالیں اور تم بعد میں انہیں کھالیں۔

**معنی:** کاگا: اے کوئے۔ نین: آنکھیں۔ نکاس: نکال۔ پی: پیا، محبوب مالک۔  
رُخ: طرف، جانب، چہرہ، منہ۔ درس: دیدار، جلوہ، درشن۔ پاچھے: پیچھے، بعد میں

کاگا چونڈ نہ پنجرا بے تاں اُڑر جا۔

جت پنجرے میرا شوہ بے ماش نہ تدوں کھا

**ترجمہ:** اے کوئے میری ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ نوچ اس سے گوشت نہ اتارا گر تو ایسا کر سکتا ہے تو یہاں سے اڑ جا۔ اسے نہ چھیڑ اور جس ڈھانچے میں میرا مالک موجود ہے جب تک اس میں اس کا بسیرا ہے۔ تب تک اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اس وقت تک اسے نہ چھیڑو۔

**معنی:** کاگا: اے کوئے۔ چونڈ: نوچ۔ پنجرا: ڈھانچہ۔ بے: بستا ہے، موجود ہے۔  
اُڑر جا: اڑ جا۔ بے: بس میں ہے۔ جت: جیت، جس۔ شوہ: مالک، خاوند، رب تعالیٰ  
ماش: گوشت۔ تدوں: تب تک

فریدا گور نمانی سڑ کرے نگھر یا گھر آؤ

سر پر میں تھے آوناں مرنوں نہ ڈریاو

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں اے فرید قبر بندے کو پکارتی ہے، بلا قی ہے صدائیں دیتی ہے اے بے گھر انسان اپنے گھر آؤ میں ہی تمہارا اصلی گھر ہوں مجھ میں آؤ۔ تم نے ہر حال میں میرے پاس آنا ہے۔ میرے میں ہی تیرا بسیرا ہوگا۔ موت سے نہ ڈر و موت سے نہ گھبراو۔ یہ واقع ہو کر ہی رہے گا۔

**معنی:** گور: قبر۔ نمانی: بیچاری، عاجز۔ سڑ: آواز، صدا، بلا وَا۔ نگھر یا: اے بے گھر۔  
سر پر: ہر حال میں۔ میں تھے: مجھ میں۔ آوناں: آنا ہے۔  
مرنوں: مر نے سے، موت سے۔ ڈریاو: گھبراو، ڈرو۔

انہیں لوئیں و یکھ دیاں کیتی چل گئی

فریداً لوکاں آپو اپنی میں اپنی پی

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ کتنی خلق خدا اس دنیافانی سے چلی گئی ہے۔ رخصت ہو گئی ہے۔ اے فریدؒ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ سب کو اپنی فکر ہے لیکن مجھے تو بس اپنی فکر ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گا۔ میں کیا کروں۔

**معنی:** انہیں: ان سے۔ لوئیں: آنکھوں سے۔ و یکھ دیاں: دیکھتے ہوئے۔

کیتی: کتنی۔ چل گئی: چلے گئے۔ لوکاں: لوگوں کو۔ آپو اپنی: اپنی اپنی۔

پی: پڑی، فکر

آپ سنواریں میں ملاں میں ملیاں شکھ ہوئے

فریداً بے توں میرا ہوئے رہیں سبھ جگ تیرا ہوئے

**ترجمہ:** بابا جی سرکار ارشادِ ربانی بیان کرتے ہیں۔ اے بندے! اگر تو اپنے آپ کو درست کرے۔ میرے احکام پر چلے ان کی پابندی کرے۔ میرا ذکر کرے مجھے یاد کرے تو تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے میرا بندہ بن جائے۔ جب تجھے میرا قرب حاصل ہو جائے تو تجھے سکون نصیب ہو۔ امن ملے تمہیں سکھ ملے۔ اے فریداً اگر تو میرا ہو جائے تو یہ تمام جہان تیرا ہو جائے۔ کیونکہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اُس کا ہو جاتا ہوں اور تمام زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔

**معنی:** سنواریں: درست کرے۔ ملاں: ملوں۔ بے: اگر۔

ہو رہیں: ہو جائے، بن جائے۔ سبھ: تمام، کل، یہ۔ جگ: جہان، زمانہ، دنیا  
④ ہوئے: ہو جائے۔

ہنساں دیکھے ترن دیاں بگاں آیا چا

ڈب موئے بگ پڑے سر تل اپر پاء

**ترجمہ:** جناب لکھتے ہیں کہ ہنسوں کو تیرتے دیکھ کر بگلوں کے دل میں بھی شوق آیا کہ ہم بھی تیریں۔ حالانکہ وہ یہ قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں تیرنے کی خوبی نہیں تھی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بیچارے نکے بلکے ڈب مرے سر نیچے اور پاؤں اور پر ہو گئے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کو کوئی کام کرتا دیکھ کر اُس کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ جس کی تم قدرت نہیں رکھتے ہو ایسا کرنے سے نقصان ہو گا۔

**معنی:** ہنس: ایک آبی چانور جس کی خوراک صرف موتی ہیں وہ اور کچھ نہیں کھاتا۔  
ترن: تیرنا۔ بگاں: بلکے۔ چاء: شوق۔ بگ: بلکے۔ پڑے: بیچارے، نکتے۔  
تل: نیچے۔ اپر: اور پر۔ پاؤں: پاؤں

میں جانیاں وڈھ ہنس ہے تاں میں کیا سنگ

جے جاناں بگ پڑا جنم نہ بھیڑیں اُنگ

**ترجمہ:** میں نے سمجھا کہ ہنس بڑا ہے ہنس اچھا ہے تب میں نے اس کا ساتھ کیا اُس سے تعلق جوڑا دوستی کی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا اگر میں جانتا کہ یہ نکتا بگلا ہے تو میں اس سے کبھی زندگی بھر تعلق نہ جوڑتا۔ کبھی اس سے دوستی نہ کرتا۔ اس سے واسطہ نہ رکھتا۔ بابا جی زمانے اور بھلے برے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

**معنی:** جانیاں: سمجھا، سوچا۔ ہنس: ایک آبی پرندہ۔ وڈھ: بڑا، اچھا۔  
تاں: تب۔ سنگ: ساتھ، دوستی۔ جے: اگر۔ بگ: بگلا۔ پڑا: بیچارہ، نکما۔  
جنم: زندگی، پیدائش۔ بھیڑیں: ملاتا، تعلق جوڑتا

کیا ہنس کیا بگلا جان کو نذر کرے  
جے، تھا وے اُوہ فریداً کا گوں ہنس کرے

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کیا بگلا اور کیا ہنس اگر جان بھی قربان کر دیں جان کی بازی بھی لگا دیں تو بھی اگر اس مالک کو منظور ہو جائے اُسے پسند کر لے تو وہ اے فرید وہ کوئے سے ہنس بنادیتا ہے۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے کہ اسے کس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اس پر مہربان ہو جائے اور اسے نوازدے۔

**معنی:** نذر: قربان، نچحاور۔ جے: اگر۔ تھا: اس۔ بھا وے: چاہے، پسند آئے۔  
⑤ کا گوں: کوئے سے۔

کندھی اتے رُکھڑا کچرک بھٹے دیہر

فریداً کچے بھانڈے روکھئے کچر توڑی نیر

**ترجمہ:** انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کسی ندی کے کنارے پر ایک درخت ہے اور موت ہر روز اس کے کنارے کاٹ رہی ہے۔ ہرگز رتنا دن اس کنارے کو گراہا ہے۔ وہ درخت کب تک برداشت کرے گا جس کی جڑوں کو روزانہ موت خالی کر رہی ہو۔ مٹی نکال رہی ہے۔ وہ کب تک کھڑا رہے گا۔ اے فریداً کہ مٹی کے کچے برتن میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ کب تک اسے روکے رکھے گا۔ آخر وہ کھڑا جائے گا۔ اسی طرح یہ مٹی کا جسم روح کو جان کو کب تک اپنے اندر چھپا کر رکھ سکے گا۔ آخر اس درخت نے گرنا ہے۔

**معنی:** کندھی: کنارہ، ساحل۔ رُکھڑا: درخت، شجر۔ کچرک: کب تک۔

بھٹے: باندھے، روکے۔ دیہر: حوصلہ، برداشت۔ بھانڈے: برتن، باسن  
روکھئے: رکھیں۔ نیر: پانی، جل۔ کچے: خام، بن پکے

فریداً محل مسکن رہ گئے واسا آیا تل  
گوراں سے نمانیاں بہسن روحاں مل

**ترجمہ:** اے فریداً محل یہ مکان یہ قیام گا ہیں سب یہاں ہی رہ جائیں گی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جائے گی اکیلے ہی جانا ہوگا اور قبر میں مٹی کے نیچے بسرا ہوگا اور وہ بیچاری قبریں روحوں کو اپنے اندر سمیٹ کر بیٹھ جائیں گی۔ روحوں کو اپنے اندر بسالیں گی۔

**معنی:** محل: مکان، بنگلہ۔ مسکن: گھر رہنے کی جگہ۔ واسا: بسرا قیام۔  
تل: نیچے۔ گوراں: قبریں۔ سے، سو: وہ۔ نمانیاں: بیچاری۔ بہسن: بیٹھیں گی مل: سمیٹ کر۔ روحاں: جانیں۔

فریداً موتے دابناں اینویں دستے جیویں دریاوی ڈھاہ

عمل بھے کیتے ڈنی وچہ سے درگاہ اگواہ

**ترجمہ:** اے فریداً موت کا کنارہ اس کی حد اسی طرح ہی ہے جس طرح دریا کا کنارہ جس کو روزانہ دریا کا پانی بہارہا ہے گرا رہا ہے اور اگر بندے نے جو نیک عمل دنیاوی زندگی میں کیے ہیں وہ آخرت میں بارگاہِ الہی میں اس کے شہادتی ہوں گے۔ اس کی گواہی دیں گے۔ اُس کی خلاصی کا ذریعہ نہیں گے۔ اُس کے ساتھی ہوں گے۔

**معنی:** موتے: موت، اجل آئی، قضا② بنان: حد، کنارہ، ساحل۔

اینویں: ایسے، اس طرح۔ ڈھاہ: دریا کے بہاؤ کی گراوٹ۔ دستے: دکھائی دے، نظر آئے دی: کی۔ عمل: کام۔ بھے: اگر۔ ڈنی: دنیا، جہان، زمانہ، عالم۔ وچہ: میں۔ سے: وہ، وہی۔ درگاہ: دربارِ الہی۔ اگواہ: گواہ، شہادتی۔

فریداً موتے دابناں اینویں جیوں دریاوی ڈھاہا

اگے دوزخ تپیا سُنئے ہوں پوے کھاہا

**ترجمہ:** اے فرید موت کا کنارہ حد اسی طرح ہی ہے جس طرح دریا کے کنارے کو گرتا ہوا دریا کا بہاؤ۔ جو روزانہ اُسے گرا رہا ہے۔ اسی طرح موت زندگی کو ہر روز کم کر رہی، گرا رہی ہے۔ کنارہ زندگی کوڑھائے جا رہی ہے اور آگے گرم جہنم سنتے ہیں اس کا خوف پڑتا ہے اس کا ہنگامہ شور ڈر رہا ہے۔

**معنی:** موت: موت، اجل، آئی، قضا۔ بناء: کنارہ، حد، ساحل۔  
جیوں: جیسے، جس طرح۔ ڈھاہا: پانی کے بہاؤ کی گراوٹ۔ آگے: آگے۔  
پتا: گرم، جلتا ہوا۔ سنتے ہیں۔ ھول: خوف، ڈر، بھے، بھو۔  
پوے: پڑتا ہے۔ کھاہا: ہنگامہ

اکناں نوں سمجھ سو جھی آئی اک پھردے بے پرواہا

عمل جو کیتے دُنی وِچہ سے ڈرگاہ اگواہا

**ترجمہ:** اے فرید پچھے لوگوں نے جان لیا تھا اُس کی سمجھ میں بات آگئی تھی کہ محشر میں اعمال کی پرسش ہو گی وہ اس بات سے آگاہ تھے لیکن پچھے بے پرواہ غافل غفلت میں ہی پھر رہے تھے۔ انہیں آخرت کی پرواہ نہ تھی کہ جو عمل دنیاوی زندگی میں کیے جائیں گے وہی بارگاہ الہی میں ہمارے کام آئیں گے۔ وہی ہمارے گواہ ہوں گے، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گے۔

**معنی:** اکناں: پچھنے۔ سمجھ: تمام، کل، سب۔ سو جھی: سمجھ آگئی۔  
بے پرواہا: بے فکر، غافل۔ دُنی: دنیا، جہان۔ ڈرگاہ: بارگاہ۔ اگواہ: گواہ، شہادتی

فریدا دریا کئے بگلا بیٹھا کیل کرے  
کیل کریندے بگ کوں اچنتے باز پئے

**ترجمہ:** اے فرید دریا کے کنارے بیٹھا بگا بڑے کلوں ناز خرے کر رہا تھا اور کلوں کرتے ہوئے بغلے کو اچانک بے خبری میں باز نے آ پکڑا۔ باباجی کا کہنا ہے کسی وقت بھی فخر مان غرو نہیں کرنا چاہیے۔ اُس مالک کو عاجزی انکساری قبول ہے۔

**معنی:** کتنے: کنارے۔ کیلیں: کلوں، خرے، فخر۔ کریندے: کرتے۔

**ہنجھہ:** نہ، ایک آلبی پرندہ۔ ٹوں: کو۔ اچتے: اچانک، یک لخت۔ پئے: پڑے

باز پئے تِس رب دے کیلاں وِسْریاں

جو من چت نہ چیتے سَن شوگا لیں رب کیاں

**ترجمہ:** اُسے خدا کے بھیجے ہوئے بازوں نے آ پکڑا۔ انہوں نے دبوچ لیا اور اُسے تمام ناز خرے فخر گمان بھول گیا۔ اُس کے ساتھ وہ اچانک ہو گیا جو اس کے فہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جو مجھے میرے دل میں نہیں تھیں جو مجھے یاد نہیں تھیں وہی احکام رب العزت ہے کے ہیں۔ جن کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم غافل ہیں۔

**معنی:** پئے: پڑے۔ تِس: اُس کو۔ کیلاں: ناز خرے، فخر۔ وِسْریاں: بھول گئیں  
من: دل، چت، جی۔ چیتے: یاد۔ سَن: تھیں۔ سُو: وہ وہی۔ گا لیں: باتیں، احکام۔  
رب کیاں: خداوند تعالیٰ کی

ساذھے ترے مَن دیپڑی چلے پانی آن

آیو بَنده دُنی وِچہ وَت آ سونی بنھ

**ترجمہ:** ساذھے تین من وزن کا انسانی جسم جو پانی اور رزق یعنی اناج سے چل رہا ہے زندہ ہے اور انسان اس دنیا میں دوبارہ آنے کی امید لے کر آیا ہے اور یہی اس کی بڑی بھول ہے۔ ایک دفعہ یہاں سے جانے والا کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ اس دنیا میں آنا ایک ہی بار ہے۔

**معنی:** ترے: تم۔ مَن: تول کا پیانہ، 40 لڑوzen۔ دیہری: جسم، بدن۔ چلے: چلتی ہے  
آن: رزق، خوراک، اناج۔ آیو: آیا۔ دُنی: جہان، دنیا، زمانہ۔ آسوں: امید، آس۔  
ذَت: پھر، دوبارہ۔ بَنْهَر: باندھ کر

### ملک الموت جاں آؤی سبھ دروزے بھن

تہماں پیاریاں بھائیاں آگے دیتا بخہ

**ترجمہ:** جان قبض کرنے والا فرشتہ حضرت عزرا میں ملک الموت آئے گا تو وہ تمام دروازے توڑ کر آئے گا اُسے کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے اپنے ہی بھائیوں پیاروں نے اس کے سامنے باندھ دیا۔ اُس نے ان کے سامنے ہی جان قبض کر لی اُسے کوئی روک نہ سکا۔ وہ میرے اپنے میرے کسی کام نہ آسکے۔ ان کے سامنے ہی میری جان لے لی گئی۔

**معنی:** ملک الموت: فرشتہ اجل۔ جاں: جب۔ آؤی: آئے گا۔ سبھ: تمام، کل۔  
بھن: توڑ کر۔ تہماں: اُنہوں نے۔ آگے: آگے۔ دیتا: دیا۔ بخہ: باندھ۔

### وِیکھو بندہ چلیا چونہہ جنیاں دے گنھ فریداً عمل جو کیتے دُنی وِچہ وَرگا ہے آئے گم

**ترجمہ:** دیکھئے بندہ اس دنیا سے چار آدمیوں کے کندھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ اس دنیا فانی سے سفر آخرت پرروانہ ہو رہا ہے۔ اسے فریداً اعمال اس نے اس دنیا دی زندگی میں اس دنیا میں جو کیتے تھے آگے بارگاہ الہی میں وہی اس کے کام آئیں گے۔ اُنہیں پر اس کا فیصلہ ہو گا کہ یہ جنت میں جائے گا یا خدا نخواستہ جہنم میں جائے گا۔

**معنی:** چونہہ: چار۔ جنیاں: بندوں، انسانوں۔ کنھ: کندھا، شانہ۔ کیتے: کیے۔  
دُنی: دنیا، زمانہ، جہان۔ درگاہ: بارگاہ۔ کم: کام، کاج۔

فریدا ہوں بلہاری تھاں پنکھیاں جنگل جھاں واس  
کنکر چکن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس

**ترجمہ:** اے فرید میں پرندوں پے قربان جاؤں جو جنگل میں رہتے ہیں۔ وہیں ان کا بسیرا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر کھاتے ہیں۔ ریگستان میں بستے ہیں لیکن پھر بھی اپنے مالک کا اپنے رب کا قرب نہیں چھوڑتے اُس کا ذکر کرتے ہیں۔ اُس کا ورد کرتے ہیں۔ اُسی رازق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو انہیں رزق دے رہا ہے انہیں پالنے والا ہے۔

**معنی:** ہوں: میں، خود۔ بلہاری: قربان، شمار۔ تھاں: آن، وہ۔ پنکھیاں: پرندوں۔ جھاں: جن، جو۔ واس: رہنا سہنا، بسیرا۔ چکن: چکنے، چنتے، کھانے۔

تھل: ریگستان، ویرانہ۔ وسن: بستے، رہتے۔ چھوڑن: چھوڑیں، چھوڑتے۔

پاس: قرب، ساتھ

فریدا رت پھری ون کنهیا پت جھڑیں جھڑپا

چارے گندال ڈھونڈھیاں رہن کتھاؤں ناں

**ترجمہ:** اے فرید وقت بدلا زمانہ بدلا جوانی کئی بڑھا پا آ گیا۔ جسم کا نئے لگار عشہ طاری ہو گیا پاؤں لڑکھرانے لگے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ چاروں جانب تلاش کیا لیکن کہیں بھی رہنے کی جگہ نہ ملی ہے۔ موت ہر جانب ہر جگہ موجود ہے۔

**معنی:** رت: موسم۔ پھری: بدلتی تبدیل ہوئی۔ ون: ایک درخت، جسم۔

گنہیا: لرزہ، کانپا، تھر تھرا یا۔ پت: پتے۔ جھڑیں: گریں۔ گندال: سمتیں، اطراف۔

ڈھونڈھیا: تلاش کیا۔ رہن: رہنا، سکون۔ کتھاؤں، کہیں، کسی مگر۔ نا: نہیں، نہ

فریدا پاڑ پٹولا دنج کری کمبلوی پھریو

جنہیں ویسیں شوہ ملے سے ای ویس کریو

**تہ جھہ:** اے فرید ریشمی نفیس لباس پھاڑ کر پر زہ کر کے ایک چھوٹا سا کمبل اوڑھ کر پھرتی ہے۔ اچھا لباس پھاڑ دیا ہے جو لباس مالک کو پسند ہے جو لباس اُسے اچھا لگتا ہے جس حال میں وہ خوش ہے جس میں اس کا قرب نصیب ہوتا ہے وہی لباس پہننا۔ جوشہر کو پسند ہے، جو حال وہ چاہتا ہے وہ بہتر ہے۔

**معنی:** پاڑ: پھاڑ۔ پٹولا: لباس۔ وَنْج: پر زہ پر زہ۔ کمبلوی: چھوٹا کمبل۔

پھر یو: پھرنا، گھومنا۔ جنہیں: جن میں۔ ولیس: حلیہ، لباس۔ شوہ: مالک، خاوند، رب تعالیٰ سے: وہ، وہی۔ ای: ہے۔ کر یو، کرنا۔

### کائے پٹولا پاڑتی کمبلوی پھرے

گھر ہی پیٹھیاں شوہ ملے جئے نیت راس کرے

**تہ جھہ:** لباس کس لیے پھاڑتی ہے کیوں کمبل اوڑھ کر پھرتی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تو اپنی نیت مَن صاف کر لے میں نکال دے فخر چھوڑ دے تو تمہارا مالک جتھے گھر پیٹھیے ہی مل جائے گا کہیں تلاش کرنے اور لباس پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

**معنی:** کائے: کیوں۔ پٹولا: لباس۔ پاڑتی: پھاڑتی۔ کمبلوی: چھوٹا کمبل۔

پھرے: گھومتی۔ شوہ: مالک، رب تعالیٰ۔ جئے: اگر۔ راس: درست، ٹھیک

### فریداً گرب جہاں وَذِیاً یاں دھن جو بن اس گاہ

خالی چلے وَھنی سیوں ٹپے جیوں مینہہ آ

**تہ جھہ:** اے فرید جنہوں نے اپنی خوبیوں اپنے حسن جوانی اپنے مال و دولت پر فخر کیا غرور کیا وہ اپنے مال دار مالک سے خالی رہ گئے۔ اس سے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اس کی کوئی عطا حاصل نہ کر سکے۔ وہ اسی طرح رہے جس طرح ایک ٹیلا جب بارش برستی ہے تو وہ اس بارش سے فائدہ نہیں لے سکتا اور اس بارش کا پانی فوراً نیچے آ جاتا ہے۔ وہ پیاسا ہی

رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی خداوند تعالیٰ کے بھرے خزانوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور خالی رہ جاتے ہیں۔

**معنی:** گرب: مان، فخر، غرور۔ وڈیا یاں: خوبیاں، گن۔ دھن: مال، دولت۔  
جو بن: جوانی، حسن۔ آگاہ: بے حساب، بے شمار۔ دھنی: دولت مند، مال دار۔  
سیوں: سے۔ مٹے: ٹیلے، نیکریاں۔ جیوں: جیسے، جس طرح۔ مینہہ آں: بارش، برسات

فریدؒؒ گر بن نہ وڈیا یاں دھن جو بن اسگاہ

خالی چلے دھنی سیوں مٹے جیوں مینہہ آ

**ترجمہ:** اے فریدؒؒ کسی کامل مرشد رہبر کے بنا حسن جوانی مال و دولت تمام خوبیاں ان کی یہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔ مرشد کامل کی نگاہِ کرم کے بغیر ایسے ہی ہیں۔ جیسے کسی ٹیلے پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اُس سے فوراً بارش کا پانی نیچے آ جاتا ہے اور وہ لا حاصل رہ جاتا ہے اور وہ خشک ہی رہ جاتا ہے۔

**معنی:** گر: گرو، مرشد، رہبر زادہ نہما۔ بن: بغیر، بنا۔ وڈیا یاں: خوبیاں، گن، ہنر۔  
دھن: مال، دولت۔ جو بن: جوانی، حسن۔ اسگاہ: یہاں، اس جگہ۔

دُنی: دنیا، زمانہ، جہان۔ سیوں: سے۔ مٹے: ٹیلے۔ مینہہ آ: برسات برے

فریدؒؒ اپنے ڈراونے جہاں وساریوں ناؤں

اتھے وکھ گھنیرے آ آگے ٹھور نہ ٹھاؤں

**ترجمہ:** اے فریدؒؒ جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام کو بھلا دیا اُس کا ذکر چھوڑ دیا ان کے چہرے ڈراونے خوفناک ہیں اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں جہان بر باد کر لیے۔ دنیا اور آخرت بھی۔

**معنی:** تہاں: اُن، انہوں نے۔ مکھ: صورتیں، شکلیں، مُنہ۔ ڈراونے: خوفناک۔  
جہاں: جنہوں نے۔ وساریا: بھلا دیا۔ ناؤں: نام، ذکر۔ اتنھے: یہاں، اس جگہ۔  
گھنیرے: بہت زیادہ، بے شمار۔ اگے: آگے، آخرت۔ ٹھور: پناہ گاہ، ٹھکانہ  
ٹھاؤں: مقام، ٹھکانہ

فریداً پچھلی رات نہ جا گیوں جیونڈ رو مویوں

بچے تیں رب و ساریا تیں رب نہ و سریوں

**ترجمہ:** اے فریداً کرتورات کے پچھلے یعنی آخری پہنچیں جا گا اٹھا مالک کی بندگی اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تو جان لے کہ تو زندہ نہیں مردہ ہے اور اگر تو نے اپنے مالک کو بھلا دیا ہے لیکن تیرے رب نے بچے نہیں بھلا دیا ہے۔ اُسے تو یاد ہے۔

**معنی:** جا گیوں: جا گا، اٹھا۔ جیونڈ رو: زندہ ہی۔ مویوں: مر گیا ہے۔ بچے: اگر تیں: تم، تم نے۔ وساریا: بھلا دیا۔ و سریوں: بھولا

فریداً گفت رنگاولا و ڈھابے محتاج

اللہ سبیٰ رتیا ایہہ سچا وا ساج

**ترجمہ:** اے فریداً تیرا مالک تیرا رب بڑی شان والا بے نیاز ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اور دونوں جہاں اُس کے محتاج ہیں۔ وہ بڑا بے پرواہ ہے۔ مالک کل ہے۔ یہ اُسی رب کے کرم سے اُس کی رحمت سے اس کائنات میں اُسی کے نام کا ہی چرچا ہے۔ ہر کوئی اُسی کو ہی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اُسی کے کرم سے یہ دنیا آباد ہے۔

**معنی:** گفت: خاوند، مالک، رب تعالیٰ۔ رنگاولا: رنگیں، خوبصورت۔

و ڈھا: بڑی شان والا، عظیم۔ بے محتاج: بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں۔

سبیٰ: ذریعہ، سبب، مہربانی۔ ایہہ: یہ، یہی۔ سچاوا: سچا۔ ساج: ساز

فریداً دکھنکھا اک کر دل تھیں لاہ و کار

اللہ بھاوے سو بھلا تاں لبھی دربار

**ترجمہ:** اے فرید تمام دکھنکھا بھول کر اپنے دل سے تمام میل اتار دے۔ حد بغض دل سے نکال دے۔ غور تکبر چھوڑ دے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ جسے اللہ چاہے جو رب کو پسند ہو وہی اچھا ہے اسی کو وہی اس کا قرب حاصل ہوتا ہے وہی پارگاہِ الہی میں قبول ہوتا ہے۔

**معنی:** تھیں: سے۔ لاہ: آتا ز۔ و کار: گناہ، پاپ، عیب۔ بھاوے: چاہے، پسند کرے سو: وہ، وہی۔ بھلا: اچھا، بہتر۔ لبھی: ملے، حاصل ہو۔ دربار: آستانہ، بارگاہ

فریداً دُنیٰ وَجَائِی وَجْدِی توں بھی وَجَیْسِ نال

سو ای جیو نہ وَجَدا جس اللہ کردا سار

**ترجمہ:** اے فرید یہ دنیا آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے اور تو بھی دنیا سے لڑتا جھگڑتا ہے لوگوں سے البتا ہے۔ وہ وہی دل کسی سے نہیں لڑتا جھگڑتا جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے جس دل کو اپنے رب کی خبر ہو جائے۔ جس پر اس کا رب مہربان ہو جائے جسے وہ ہدایت دے دے۔

**معنی:** دُنیٰ: دنیا، زمانہ، کائنات۔ وَجَائِی وَجْدِی: لڑتی جھگڑتی۔ وَجَیْسِ: جھگڑتا ہے نال: ساتھ۔ سو: وہ، وہی۔ ای: ہے۔ جیو: دل۔ سار: خبر، پستہ، سونہرہ

فریداً دل رتا اس دُنیٰ سیوں دُنیٰ نہ کئے کم

مشل فقیراں گاکھڑی سو پائیے پور کرم

**ترجمہ:** اے فرید یہ دل اس دنیا سے بڑا دکھی ہے۔ بڑا پریشان ہے یہ دنیا کسی کام کی

نہیں ہے۔ یہ دنیا فقیروں کی منزل جیسی مشکل ہے اس میں بڑے دکھ ہیں۔ اس سے وہ ہی کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کے نصیب اچھے ہوں۔ بنا مقدر کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس مالک کی رحمت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

**معنی:** رَتَّا: سرخ، دُكْحَى، خون جیسا۔ دُنِى: دنیا، جہان، عالم۔ سیوں: سے۔  
کتنے: کسی، کہاں۔ گاہڑی: مشکل۔ سُو: وہ، وہی۔ پائیے: پائیں۔ پور کرم: اچھے نصیب

---

پہلے پھرے پھلڑا پھل بھی۔ پچھلی رات  
جو جا گیں لہن سے سائیں کنوں دات

**ترجمہ:** رات کے پہلے پھر کی عبادت اسی طرح ہی ہے جیسے پھول اور پچھلی رات کی پھل کی طرح پچھلی رات کا وقت عطاوں کا وقت ہوتا ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو پچھلی رات میں جو بھی خدا سے مانگا جائے وہ عطا کرنے والا ہے۔ جو اس مالک سے کچھ پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جا گتے ہیں۔ مالک انہیں عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ان پر اپنی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔

**معنی:** پھر: تین گھنٹے کا وقت۔ پھلڑا: پھول۔ جا گیں: جا گتے۔

لہن سے: حاصل کرنے کے لیے۔ سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔ کنوں: سے۔ دات: عطا، بخشش

---

راتیں صاحب سندیاں کیا چلیں تسل نال  
اک جا گیندے نہ لہن اکناں ہتھیاں دے اٹھاں

**ترجمہ:** تمام عطاوں میں تمام بخششیں اس رب جلیل کی طرف سے ہوتی ہیں اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو جا گئے والے بھی لا حاصل رہ جائیں۔ کچھ حاصل نہ کر سکیں اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سوئے ہوؤں کو جگا کر خود اٹھا کر عطا کر دے انہیں نوازدے یہ اُسی کی مرضی ہے۔ رضا ہے۔

**معنی:** داتیں: عطا میں۔ سندیاں: کی۔ تِس: اُس، اُس سے۔ نال: ساتھ۔  
جاگیندے: جاگتے ہوئے۔ لہن: حاصل کریں۔ اکناں: کچھ کو۔ ستیاں: خواب۔  
اٹھاں: اٹھا کر

ڈھونڈیے سہاگ کوں توں کوئی کور

جہاں ناؤں شہاگنیں تنہاں جھاک نہ ہور

**ترجمہ:** اے اپنے مالک اپنے سہاگ کو تلاش کرنے والی تجھ میں کوئی کمی کوئی کچھ کوئی  
کھوٹ ہے۔ تجھ میں کوئی عیب ہے۔ کیونکہ جو سہاگنیں ہوتی ہیں جب ان کو ایک سہاگ  
مل جاتا ہے جب وہ کسی مالک کی ہو جاتی ہیں تو وہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں  
دیکھتی ہیں۔ یعنی جن کو ان کا مالک مل جاتا ہے وہ پھر کسی غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ وہ  
صرف اپنے مالک کو ہی پکارتے ہیں اسی کو یاد کرتے ہیں۔

**معنی:** ڈھونڈھیدیے: اے تلاش کرنے والی۔ سہاگ: خاوند، مالک، ب تعالیٰ  
کوں: کو۔ تن: جسم، بدن۔ کور: کمی، عیب، کھوٹ۔ جہاں: جن، جن کا۔ ناؤں: نام۔  
سہاگن: لہن، شادی شدہ۔ تنہاں: انہیں، ان کو۔ جھاک: جھانکنا، دیکھنا۔ ہور: اور، دوسرا

صبر منجھ کمان اے صبر کا نیتحوں

صبر سندابان خالق خطانہ کروں

**ترجمہ:** صبر برداشت درگز ریمراہتھیار ہے میرا تیر ہے اور صبر ہی میرا اپنے ہے۔ اے  
میرے مالک یہ صبر کا ہتھیار استعمال کرنے میں کبھی خطانہ کروں۔ میں کبھی صبر کا دامن  
چھوڑنے دوں مجھے صبر دینا اسی پر قائم رکھنا۔

**معنی:** منجھ: میں، خود۔ کمان: تیر۔ اے: ہے۔ نیتحوں: چلہ، تیر کھنے کا جھولا۔  
سندابا۔ بان: تیر۔ خالق: مالک، پیدا کرنے والا، اللہ۔ خطانہ: قصور، کوتا ہی، غلطی

صَبْرٌ أَنْدَرِ صَابِرٍ إِلَيْسَ تَنْ جَالِينْ

هُونَ نَزْدِ يَكْ خَداوَرِ بِهِيتَ نَهْ كَسَهْ دِينْ

**ترجمہ:** صابر اپنے صبر میں اپنے آپ کو اپنے جسم کو اپنے تکبر غرور کو جلا دیتے ہیں۔ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے خدا کے بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن زمانے والوں پر لوگوں پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کسی کے سامنے اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔ ہمیشہ عاجزی انکساری سے رہتے ہیں۔

**معنی:** ایہہ: یہ، یہی۔ صابری: صابر، صبر کرنے وال۔ ایویں: اس طرح، ایسے۔  
تن: جسم، بدن۔ جالین: جلائیں۔ ہون: ہوں۔ دے: کے۔ بھیت: بھید، راز، مخفی۔  
دین: دیتے

صَبْرٌ إِيْهَهْ سَوَاً بِهِ تُوْ بَنْدَهْ دِرْ كَرِيسْ

وَدَهْ تَهِيُّيْسْ دَرِيَاوَلْ ثُكْ نَهْ تَهِيُّيْسْ وَهَرْهَهْ

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں صبراً یک ایسا راستہ ہے اے بندے اگر تو اس پر چلے اس پر یقین کرے اس پر بھروسہ رکھے اس پر پکا ایمان رکھئے تو تو دریا سے بھی بڑا ہو جائے گا۔ صبر چھوڑ کر یعنی دریا سے ٹوٹ کر چھوٹا ندی نالہ نہ بننا یعنی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیونکہ رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

**معنی:** ایہہ: یہ، یہی۔ سواً: راستہ، راہ، دُگر، طریقہ۔ بے: اگر۔  
در: یقین، بھروسہ، اعتبار، تسلی۔ وَدَهْ: زیادہ، بڑا۔ تھیویں: ہو جائے، ہو۔  
ثُكْ: ٹوٹ۔ واہڑہ: چھوٹا ندی نالہ

فَرِيدًا در درویش گا کھڑی چوپڑی پریت

ایکن کئے چالیے درویشاں دی رویت

**ترجمہ:** ایک فرید فقیری میں داخل ہونا فقیری اختیار کرتا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا راستہ بڑا کٹھن ہے لیکن یہ دوستی بڑی مزیدار ہے جس نے ایک دفعہ اس کا مزہ چکھ لیا فقیری اختیار کر لی فقیروں کی رسم اپنانی پھر کبھی اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔

**معنی:** درویش: فقیری۔ گاکھڑی: مشکل، تکلیف وہ۔ چوپڑی: گھی لگی، مزیدار، لذیذ پریت: دوستی، یاری۔ ایکن: ایک بار، ایک دفعہ۔ کئے: کسی نے۔ چالیے: اختیار کر لی۔  
ریت: رسم رواج

تن تپے تنور جیوں بالن ہڈ بلن  
پیریں تھکاں سریں جلاں بے مُوں پری ملن

**ترجمہ:** جسم تنور کی طرح جلے ہڈیاں ایندھن بن کر جلیں پاؤں تھک جائیں تو میں سر کے بل چلوں اگر مجھے میرے پیارے محبوب کا میرے مالک کا دیدار نصیب ہو۔ مجھے میرے مالک کا قرب نصیب ہو جائے۔ مجھے اپنے بدن کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس مجھے اپنے مالک کا دیدار چاہیے۔ اس کا جلوہ نصیب ہو جائے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ تپے: جلے، گرم ہو۔ بالن: ایندھن۔ ہڈ: ہڈیاں۔ بلن: جلیں۔  
پیریں: پاؤں، قدم۔ تھکاں: تھک جائیں۔ سریں: سر کے بل۔ جلاں: جاؤں، چلوں۔  
بے: اگر۔ مُوں: مجھے۔ پری: محبوب، پیارا، مالک۔ ملن: ملیں، ملاقات کریں

تن نہ تپا تنور جیوں بالن ہڈ نہ بال

سر پیریں کیا پھیڑیا اندر پری نہال

**ترجمہ:** اپنے جسم کو تنور کی طرح کیوں جلاتا ہے۔ ہڈیوں کو ایندھن کی جگہ کیوں جلاتا ہے۔ سراور پاؤں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا تصور کیا ہے۔ تیرا محبوب تیرا مالک تو تیرے

اندر ہی خوش ہے۔ تیرا محبوب تو تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ اپنے آپ میں ذرا نگ  
ڈال کر دیکھو۔ اپنے باطن میں ذرا جھانکو۔ تمہیں مل جائے گا۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ تپا: گرم کر۔ جیوں: جیسے، جس طرح۔ بالن: ایندھن۔  
ہڈ: ہڈیاں، ہڈ۔ بال: جلا۔ پیریں: پاؤں، قدم۔ پھیڑیا: بگارا، قصور کیا۔  
پری: محبوب، پیارا، مالک۔ نہال: خوش، راضی

ہوں ڈھونڈھیندی سجن جن مینڈے نال

فریداً الکھ نہ لکھئے گور مکھ دے وکھاں

**ترجمہ:** میں اپنے مالک کو تلاش کر رہی ہوں اور میرا مالک میرے ساتھ ہے میرے  
پاس ہے۔ میرے من میں بتتا ہے۔ اے فرید ایسا نہ کرنے والا کام نہ کیجئے اپنے اعمال  
نامے میں برائی نہ لکھائیے۔ ایسا گناہ نہ کریں جو قبر میں تمہارے سامنے آجائے اور تمہیں  
شرمندہ ہونا پڑے۔ جواب دہ ہونا پڑے۔

**معنی:** ہوں: میں۔ ڈھونڈھیندی: تلاش کرتی۔ سجن: پیاروں کو، مالک کو۔  
مینڈے: میرے۔ نال: ساتھ، ہمراہ۔ الکھ: نہ لکھنے والا۔ لکھئے: لکھیں۔ گور: قبر  
وکھاں: دکھا

سرور پنکھی پیکڑو پھاہیوال پچاس

ایہہ شن لہریں گلڈ تھیا سچے تیری آس

**ترجمہ:** بابا جی سرکار فرماتے ہیں اس دنیا میں ایک پرندے کی طرح اکیلا ہوں جو بھرے  
ہوئے تلااب میں ہے اور اس کو پکڑنے والے پھاہی لگانے والے شکاری پچاس ہیں۔  
جو اسے پکڑنا چاہتے ہیں اسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتے ہیں ہیں۔ اے میرے سچے مالک  
میں دنیا کے گرداب میں گھر چکا ہوں تیری مدد کے بنائیں ان میں سرخوں نہیں ہو سکتا ہوں۔

تو، ہی مجھے بچانے والا ہے۔ ان سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ میں تیری ہی مدد اور پناہ چاہتا ہوں۔ ان دنیادی خواہشات سے مجھے محفوظ رکھ۔

**معنی:** سر: تالاب، جھیل، جو ہڑ۔ ور: بھرا ہو، لبریز۔ پنکھی: پرنده، جانور۔ ہیکڑو: ایک، اکیلا۔ پھاہیوال: شکاری، صیاد۔ تن: جسم، بدن۔ لہریں: موجیں۔ گذتھیا: پھنس گیا، گھر گیا ہے۔ پچ: رب تعالیٰ، مالک۔ آس: امید، سہارہ

کون سُو اکھر کون سُو گن کون سُو نیاں منت

کون سُو ویسو ہون کری جت وس آوے گفت

**ترجمہ:** کس حرف کا ورد کروں وہ کون سی خوبی ہے کون سا ہنر ہے کون سی خوبی ہے وہ کون سی منت ہے جو مانوں اور کون سا حلیہ بناؤں کون سالباس پہنوں کہ میرا مالک میرے بس میں آجائے۔ مجھ پر راضی ہو جائے۔ میں اسے مائل کرلوں۔ میں اسے پسند آ جاؤں۔ وہ میرا ہو جائے۔

**معنی:** سُو: سا، کیسا۔ اَکھر، حرف، لفظ۔ گن: خوبی، ہنر۔ تما: مانا منت: نیاز مانوں، اسم، ذکر۔ ویسو: لباس، حلیہ۔ ہون: میں، خود۔ کری: کروں، بناؤں جت: جس۔ وس: قابو، بس۔ گفت: شوہر، مالک، رب تعالیٰ۔

نون سُن اکھر کھون گن چیبھا نیا منت

ایہہ ترے بھینے ویس کرتاں وس آوے گفت

**ترجمہ:** عاجزی انکساری کا ورد صرف کیونکہ وہ مالک عاجزی کو، ہی پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو خاک جیسا کر لے اپنے میں یہ خوبی پیدا کر اور زبان سے اس کا ذکر کر اسے یاد کر اسے ہر وقت پکار۔ اے بھین، یہی تینوں باتیں اپنالو تو تمہارا مالک تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے گا۔ تمہیں اس کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانتا

ہے۔ ان باتوں پر راضی ہوتا ہے۔ اُسے عاجزی پسند ہے۔

**معنی:** نوں: عاجزی، انکساری، نیچا۔ اکھر: حرف لفظ۔ کھون: خاک جیسا۔

گُن: خوبی، ہنر۔ جیپھا: زبان۔ نیما: مانا۔ منت: نذر، نیاز، ذکر۔ ایہہ: یہ، یہی۔

ترے: تینوں، تین۔ بھینے: اے، بہن۔ ولیں: لباس، حلیہ۔ وس: بس، قابو۔

گفت: شوہر، خاوند، مالک، رب تعالیٰ۔

مت ہوندی ہوئے آیا ناٹان ہوندے ہوئے نتا ناٹ

آن ہوندے آپ و نڈائے کوئی ایسا بھگت سدانے

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں کہ عقل و دانش ہوتے ہوئے انجان بن جائے جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے اور طاقت یعنی بے اختیار ہوتے ہوئے بھی اختیار ہو، عاجز ہوا اور رزق مال و دولت ہو وہ آپ خود غرض مندوں میں بانٹے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرے یعنی سخنی ہو۔ کوئی ایسا بندہ ہی فقیر کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ وہی اصل فقیر ہوتا ہے جس میں خوبیاں ہوں۔

**معنی:** مت: عقل، دانش۔ ہوندی: ہوتے ہوئے۔

آیا ناٹ: انجان، نہ جاننے والا، بال، نادان ② تان: طاقت، اختیار۔

آن: اناج، رزق، مال و دولت۔ و نڈائے: بانٹے، تقسیم کرے۔ بھگت: فقیر۔

سدائے: کہلانے

اک پھکا نہ گلا کیں سبھناں میں سچا دھنی

ہیاؤ نہ کہیں ڈھا کیں ماںک سچھ امولویں

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں کہ اے بندے کسی سے روکھی بات یعنی بد اخلاقی نہ کرنا کیونکہ ہر ایک میں وہ سچا رب تعالیٰ بتتا ہے۔ ہر دل میں اُس کا بسیرا ہے۔ وہ ہر ایک

میں ہے اور کسی کا دل نہ توڑنا یعنی کسی کا دل نہ دکھانا یہ بڑے انمول موتی ہیں۔ جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔

**معنی:** اک: ایک، اکیلا۔ پھکا: روکھا، بے اخلاق۔ گالائیں: بات کرنا، بولنا۔ سمجھنا: سب میں، تمام میں۔ سچا و حسنی: مالک حقیقی۔ ہیاؤ: دل، من، چت۔ کہیں: کسی کا۔ ڈھائیں: توڑنا، دکھانا، رنج کرنا۔ مالک: موتی، گوہر، ذر۔ سبھ: تمام، کل، سب۔ اموالوں: انمول، جن کی قیمت کوئی نہ دے سکے

سمجھنا من مالک ٹھائیں مول مچانگوا  
بے توں پریادی سک ہیاؤں نہ ڈھائیں کہیں دا

**ترجمہ:** جناب فرماتے ہیں سب کا دل ایک موتی ہے۔ ایک ہیرا ہے اسے رنج کرنا دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے وہ مالک ناراض ہوتا ہے۔ اگر تجھے اپنے مالک، اپنے رب سے ملنے کی ترذیب ہے خواہش ہے تو کسی کا دل نہ دکھانا۔ کیونکہ وہ مالک دلوں میں رہتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں اُس کا بیسا ہے۔

**معنی:** سمجھنا: تمام، کل۔ من: دل، جی، چت۔ مالک: موتی، گوہر، ذر، وغیرہ۔ ٹھائیں: توڑنا، رنج کرنا، گرانا۔ مول: ہرگز، بالکل، قیمت۔ مچانگواں: اچھانہیں۔ پریادی: محبوب، پیارا، مالک، رب تعالیٰ۔ سک: ترذیب، خواہش۔ ہیاؤ: دل، من، چت، پیچھے کہیں: کسی کا

دلوں محبت جیں سے ای پچے آ  
جیں من ہور ملکھ ہور سے کانڈھے کچے آ

**ترجمہ:** جو کسی سے پچے دل سے محبت کرتے ہیں جنہیں دلی محبت ہے وہی لوگ پچے ہیں۔ وہی لوگ اچھے ہیں بہتر ہیں اور جن کے دل اور زبان اور یعنی جن کے قول اور فعل

متضاد ہیں وہ لوگ کچے اور جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ منافق ہیں۔ وہ اپنے لوگ نہیں ہیں۔ وہ بے اعتبار ہے ہیں۔ اس لیے انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔  
**معنی:** جیس: جن، جن کے۔ سے: وہ، وہی۔ ای: ہے۔ آ: ہے۔ دل: مکن، چت، جی ہور: اور۔ ملکھ: منہ، چہرہ، زبان۔ کاٹھ: جھوٹے، کاذب۔

رَتَّتِ عُشْقِ خَدَائِي رَنْگِ دِيدَارِ كَيْهَ  
وَسَرِيَا جَيْسِ نَامِ تَتِي بَحْوَيْنِ بَهَارِ تَهْيَيْهَ  
تَرْجُمَه: بابا جی سرکار فرماتے ہیں جن کے دلوں میں عشق الہی انہیں اس کے جلوے نے  
اپنے اپنارنگ چڑھا دیا انہیں اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ انہیں رنگین کر دیا اور جن لوگوں  
نے اس مالک کا نام بھلا دیا اُس کا ذکر چھوڑ دیا۔ وہ لوگ اس زمین پر اس دھرتی پر ایک  
بو جھ کی طرح ہیں۔ وہ لوگ زمین پر بو جھ ہیں۔ ان پر زمین بھی خوش نہیں ہے۔  
**معنی:** رت: سرخ، لال، رنگین۔ خدائی: رب تعالیٰ نے۔ دیدار: جلوہ۔  
وسریا: بھولا، بھلا دیا۔ جیس: جنہیں، جن کو۔ بھوئیں: زمین، دھرتی، مٹی۔  
بھار: بو جھ، وزن، بار۔ تھیئے: ہوئے، بنئے

آپ لَيْسَ لَطَّلَا در درویش سے  
تن وَهْنَ جَنِيدِی مَا وَآتَیَ سَنْجَلَ سے  
تَرْجُمَه: وہ مالک خود ہی کسی کامل درویش سے کسی کامل رہبر سے ملا دیتا ہے۔ تعلق جوڑ  
دیتا ہے۔ وہ خود ہی بندوبست کر دیتا ہے۔ انہیں جنم دینے والی ماں مبارک باد کی مستحق  
ہے۔ جس نے انہیں جنا اور پالا پوسا جوان کیا۔ سنجالا  
**معنی:** لڑ: پلہ، دامن، جھولی۔ در: دروازہ، میں۔ درویش: فقیر، بھگت۔ تن: ان، وہ  
وَهْنَ: مال دولت، مبارک باد، جوان لڑکی۔ جَنِيدِی: جنم دیتی، پیدا کرنے والی۔  
ما وَآتَیَ: ماں، والدہ، قادر۔ سَنْجَلَ: سنجال

پروردگار اپار آگم بے انت توں

جہاں پچھاتا چھماں پیر موں

**ترجمہ:** وہ پالنے والا مالک رب تعالیٰ بڑا عظیم الشان ہے۔ لامحدود ہے اس کی قدرت کاملہ بے حساب اس کے رازوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ عالم الغیوب ہے اور جنہوں نے اس کی حقیقت کو جان لیا ہے پہچان لیا ہے میں ان کے قدم چوم لوں۔ بے شک وہ اعلیٰ ہیں۔ وہ بہتر ہیں۔ حق پر ہیں۔

**معنی:** پروردگار: پالنے والا، رزق دینے والا، رب تعالیٰ۔

اپار: لامحدود، بے انت، بے حساب۔ آگم: بہت بلندشان والا۔ توں: تو۔

جہاں: جنہوں نے۔ پچھاتا: پہچان لیا۔ چھماں: چوم لوں۔ پیر: پاؤں، قدم۔ موں: میں، منه۔

تیری پناہ خدا یا تو بخشندگی

شیخ فریدؒے خیر دیجے بندگی

**ترجمہ:** اے رب العالمین میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ہی بخشندگی والا، روز میزان کا مالک ہے۔ تیری ہی بخشش چاہتا ہوں۔ شیخ فریدؒ کی جھولی میں اپنی عبادت کی خیرات ڈال دیجیے۔ میں تیری عبادت کی بھیک مانگتا ہوں اور مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر تیری عبادت کرتا رہوں۔

**معنی:** پناہ: مدد۔ بخشندگی: بخشندگی والا۔ خیر: بھیک۔ دیجے: دینا، عطا کرنا۔

بندگی: عبادت، پوجا

بُوے شیخ فریدؒ پیارے اللہ لگے

ایہہ تن ہوی خاک نماںی گورگھرے

**ترجمہ:** جناب حضرت شیخ فرید فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے لوگا لے۔ اس سے تعلق جوڑ لے۔ اس کا ذکر اُس کی عبادت اُسی سے اپنی بخشش مانگ۔ یہ تمہارا جسم تو بیچاری منٹی ہو جائے گا اور ٹھکانہ تو قبر میں ہو گا اور اصل گھر منٹی یعنی قبر ہو گا۔

**معنی:** اللہ لگے: رب سے لوگا، تعلق۔ ایہہ: یہ، یہی۔ تن: جسم، بدن، سریر۔ ہوئی: ہو گا۔ نمانی: بیچاری۔ گور: قبر۔ گھرے: گھر جائے گا۔

### آج ملا وا شیخ فرید

ٹھاکم کو نجڑیاں منوں مچند ڈیاں

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ جو دن ایسا ہو گا آج شیخ فرید کو اپنے مالک کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ آج اپنے مالک سے میل ہو گا۔ تو نیک اعمال کی جزا میں، نیکیاں دل کو مچلاری ہوں گی۔ دل برا خوش ہو گا۔

**معنی:** اج: آج، اووز۔ ملاوا: ملاقات، میل۔ ٹھاکم: ٹاکرا، آمناسامنا، ملاقات۔ کو نجڑیاں: اچھے اعمال۔ منوں: دل کو۔ مچند ڈیاں: مچلاتی

### بے جانا مر جائیے گھم نہ آئیے

جھوٹھی دُنیا لگ نہ آپ ونجائیے

**ترجمہ:** اگر یہ جاننا جان لینا کہ ایک دفعہ یہ دنیا چھوڑنے کے بعد یعنی مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آتا ہے پھر واپسی نہیں ہو گی۔ تو اس جھوٹی دنیا کے پیچھے لگ کر اپنا آپ بر باد نہ کرنا۔ ان دنیاوی خواہشات کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں بابا جی دنیا والوں کو یہ تلقین کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آتا ہے۔

**معنی:** بے: اگر۔ مر جائیے: مرنے کے بعد۔ گھم: واپس لوٹ کر۔ آئیے: آئیں۔ جھوٹھی: جھوٹی، کاذب۔ ونجائیے: بر باد، تباہ نہ کریں

چھیل لنگھیندے پار گوری من دھیریا

کنچن وئے پاسے کلوت چیریا

**ترجمہ:** دلیر جوان یقین والے پار گزر جاتے ہیں اور بے یقین بزدل سوچتے رہ جاتے ہیں جن کے دل میں شک ہو وہ دیر کر دیتے ہیں۔ شے میں رہتے ہیں اور پاسے کے سونے کی طرح چیر کر کاٹ کر الگ کر دیتے جاتے ہیں۔ یعنی نیک اور بد الگ کر دیتے جائیں گے۔ جن کا مالک پر ایمان تھا اور جوشے میں رہے۔ الگ ہوں گے۔

**معنی:** چھیل: گھبرو، جوان، پختہ ایمان۔ لنگھیندے: گزرتے۔ گوری: نوجوان لڑکی۔

من: دل، جی چت۔ دھیریا: دیر کر دی۔ کنچن: سونا، زر، طلا، کندن۔ وئے: جیسے۔

پاسے: پہلو، طرف۔ کلوت: آری۔ چیریا: کامنا، الگ کیا

شیخ حیاتی جگ کوئی نہ تھر رہیا

جس آسن ہم بیٹھے کیتے بیس گیا

**ترجمہ:** اے بزرگ اس دنیاوی زندگی میں کوئی بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس مقام پر ہم ابھی بیٹھے ہیں کیا پتہ یہاں کتنے لوگ بیٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں۔ کتنی مخلوق اس دنیا میں آئی اور چلی گئی ہے۔

**معنی:** حیاتی: زندگی۔ جگ: زمانہ، دنیا، جہان۔ تھر: غیر فانی، باقی۔ رہیا: رہا۔

آسن: بیٹھنے کی جگہ، مقام۔ کیتے: کتنے۔ بیس: بیٹھ

کتک گونجاں چیت ڈونہہ ساون بجلیاں

سیالے سو ہندیاں پر گل باہڑیاں

**ترجمہ:** ماہ کنک میں کونجیں (پرندے) اپنی روزی کی تلاش میں آتی ہیں۔ ماہ چیت موسم بہار ہوتا ہے۔ ہر طرف ہریاں ہوتی ہے۔ پھول کھلتے ہیں۔ ہر چیز حسین لگتی ہے اور سردیوں کے موسم میں اپنے محبوب کی قربت اچھی لگتی ہے۔ اپنے پیارے کا پاس ہونا اچھا لگتا ہے۔ اپنے مالک کا میل اس کا ذکر اچھا ہوتا ہے۔

**معنی:** کونجان: لمبی گردن کا آلبی جانور۔ ڈونہہ: موسم بہار۔ سیالے: سردیوں کے موسم میں سوہنڈیاں: اچھی لگتی۔ پر: پیارا، محبوب، مالک۔ گل: گل۔ باہڑیاں: بائیں، بازو

چلنے چلنے ہار و چاراں نے منوں

گندھیندیاں چھے ماہ ٹرٹنڈیاں ہک کھنوں

**ترجمہ:** اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے اپنے دلوں میں کئی سوچیں، کئی ارمان، کئی خواہشات لے کر اس دنیا سے چلنے گئے۔ اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ چھ ماہ کا مکمل ہوتا ہے۔ اس میں جان پڑتی ہے جسم پورا ہو جاتا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ اسے جوڑتے مکمل کرنے میں چھ ماہ لگتے ہیں اور اسے بے جان کرنے میں ایک پل لگتا ہے اور وہ کھلوناٹوٹ جاتا ہے۔

**معنی:** چلنہار: جانے والے، چلنے والے۔ و چاراں: سوچیں، یادیں۔ منوں: دلوں۔ گندھیندیاں: جوڑتے، مکمل کرتے، بناتے ہوئے۔ ٹرٹنڈیاں: توڑتے ہوئے۔ ہک: ایک۔ کھنوں: پل، لحظہ۔

ز میں پچھے اسماں فریداً کھیوٹ کن گئے

جالن گوراں نال الہے جیا سہے

**ترجمہ:** اے فرید ز میں اور آسمان پوچھتے ہیں وہ رہبر وہ رہنماء وہ حکمران وہ ملاح وہ ناخدا کہاں چلنے گئے ہیں۔ آج وہ کیا ہیں جن کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ وہ کہاں ہیں لیکن وہ

اپنی قبر میں پڑے اپنے کیے پر گلے شکوئے طعنے برداشت کر رہے ہیں۔ جو کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں۔

**معنی:** زمیں: زمین، دھرتی۔ پچھے: پوچھتی ہے۔ کھیوٹ: رہبر، ملاح۔  
کن: کہاں۔ جان: گزریں، بسر کریں۔ گوراں: قبریں۔ الا ہے: گلے، شکوئے، طعنے جیا: دل، من، چت۔ سہے: برداشت کرے

تپ تپ لُوہ لُوہ ہتھ مرودو

باول ہوئی سُو شوہ لُوڑو

**ترجمہ:** جل جل کر تڑپ تڑپ کر کف افسوس ملتی ہوئی پگلی دیوانی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے مالک کو تلاش کرنا چاہتی ہے۔ اس کے مالک کو تلاش کرو۔ اسے اس کے مالک سے ملاؤ۔ یہ مالک کا دیدار چاہتی ہے۔ مالک کا وصال چاہتی ہے۔ اُسے دیکھنا چاہتی ہے۔

**معنی:** تپ تپ: جل جل۔ لُوہ لُوہ: تڑپ تڑپ کر۔ مرودو: ملو افسوس۔  
باول: پگلی، دیوانی۔ سُو: وہ، وہی۔ شوہ: مالک، خاوند۔ لُوڑو: تلاش کرو

تیں شوہ من مانہہ کیا رُوس

مجھ اوگن شوہ ناہیں دُوس

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ تیرا مالک تو تیرے دل میں بستا ہے وہ تیرے اندر رہتا ہے۔ پھر ناراضگی کیسی ہے۔ جب تیرے پاس ہے تو تلاش کیوں کرتی ہے۔ گناہ خطائیں تیری ہیں میرے مالک کا کوئی قصور نہیں ہے میں ہی گنہگار ہوں۔ مالک تو گناہوں سے پاک ہے۔

**معنی:** تیں: تیرا، تمہارا۔ شوہ: خاوند، مالک، رب تعالیٰ۔ من: دل، چت، جی۔  
مانہہ، میں، مجھے۔ رُوس: روٹھنا، ناراضگی۔ اوگن: گناہ، عیب، قصور۔ ناہیں: نہیں، نہ۔  
دُوس: گناہ، قصور

تیں صاحب کی میں سار نہ جانی  
جو بن کھوئے پاچھے پچھو تانی

**ترجمہ:** بابا جی لکھتے ہیں اے میرے مالک میرے رب میں تجھے پہچان نہ سکا تیرا ذکر نہ کر سکا تیری بندگی نہ کی۔ تیری حمد بیان نہ کی تجھے راضی نہ کر سکا۔ تیرے احکام پر عمل نہ کیا۔ اب جب میرا جوانی کا وقت گزر گیا ہے اور وقت گزارنے کے بعد پچھتا رہا ہوں۔ اب افسوس کرتا ہوں۔ اپنے کیے پر پشمیں ہوں۔

**معنی:** تیں: تو، اب، صاحب: مالک، آقا، رب تعالیٰ۔ سار: قدر، پہچان۔  
جو بن: جوانی۔ کھوئے: ضائع گئے، گنوائے، بر باد کیے۔ پاچھے: پیچھے، بعد میں۔  
پچھوتانی: پچھتا تی

کالی کوکل تو رکت گن کالی

اپنے پرستم کے ہوں برسے جائی

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے کالی اے سیاہ کوکل تجھ میں کیا خوبی ہے یا سب ہے کہ تیرا رنگ سیاہ ہو گیا تو کیوں سیاہ ہے۔ تو کوکل کہتی ہے کہ مجھے میرے محبوب کی جدائی نے اس فرقت نے مجھے جلا دیا ہے اس لیے میں سیاہ ہو گئی ہوں۔ میرا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ مجھے جدائی نے جلا دیا ہے۔ میری زندگی جدائی میں گزرا ہے۔ میں نے زندگی محبوب کی جدائی میں بسرکی ہے۔

**معنی:** رکت: کس۔ گن: خوبی، سبب، وصف۔ پرستم: پیارا، محبوب۔ ہوں: میں برسے: جدائی، فرقت، دوری۔ جائی: جلا دی، بسرکی، گزاری

پر ہے بے ہوں رکھ سکھ پائے  
جاں ہوئے کر پال تاں پر بھو ملائے

**ترجمہ:** اپنے محبوب سے بچھڑ کر اس سے جدا ہو کر کہاں سکھ چین نصیب ہوتا ہے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کون سکھی رہتا ہے۔ جب اس مالک کی نگاہ کرم ہواں کی مہربانی ہوتا تو میل کر دیتا ہے۔ وہی ملاتا ہے۔ سب اسی کی رضا پر منحصر ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے اس کی رحمت کے بنا پکجھ نہیں ہو سکتا ہے۔

**معنی:** پر ہے: محبوب، شوہ، مالک۔ بے: بنا، بغیر۔ کتھہ: کہاں۔ جاں: جب۔ کرپال: مہر، مہربان۔ تاں: تب، اس وقت۔ پر بھو: رب تعالیٰ، بھگوان ایشور۔

وَدْهُنْ كَهْوَهِيْ مُنْدَهْ اَكِيلِيْ  
نَهْ كُوْ سَاتْهِيْ نَهْ كُوْ بِيلِيْ

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ ڈراوی خوفناک اندھیری قبر میں ایک اکیلی جوان عورت ہو گی اور اس کے ساتھ نہ اس کا کوئی ساتھی نہ کوئی سہیلی ہو گی۔ صرف اسے اکیلی ہی رہنا ہو گا۔ بابا جی بندے کو سمجھاتے ہیں کہ اس اندھیری خوفناک قبر میں تو اکیلا ہی ہو گا اور کوئی تیرے ہمراہ نہیں ہو گا۔ وہیں تجھے اکیلے رہنا ہو گا۔

**معنی:** وَدْهُنْ: ڈراوی، خوفناک۔ کهْوَهِيْ: چھوٹا کنوں، قبر، گور۔ مُنْدَهْ: جوان عورت کو: کوئی۔ بِيلِيْ: دوست، پیارا، ساتھی

كَرْ كَرْ پَرْ بَهْ سَادَهْ سَنْگْ مِيلِيْ  
جاں پَھَرْ دِيكَهَا تاں مِيرَا اللَّهِ بِيلِيْ

**ترجمہ:** میرے مالک نے اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے کامل فقیر سے ملوادیا۔ اس کی صحبت میں داخل کر دیا اور پھر جب میں نے دیکھا تو میرا بس اللہ تبارک تعالیٰ ہی ساتھی مددگار ہے۔ وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔

**معنی:** كَرْ كَرْ: مہربانی، دیا۔ پَرْ بَهْ: رب کریم، اللہ تعالیٰ۔ سَادَهْ: فقیر، اللہ والا۔ سَنْگْ: ساتھی، ساتھ۔ جاں: جب۔ تاں: تب، اس وقت۔ بِيلِيْ: ساتھ، مددگار، رکھوالا

واٹ ہماری گھری اڈینی

کھینوں تکھی بہت پھینی

**ترجمہ:** بابا جی سر کار فرماتے ہیں کہ ہمارا راستہ جہاں سے گزرنا ہو گا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ جو تکوار سے تیز اور بال سے بھی باریک ہے۔ وہاں سے بنا اعمال گزرنا بڑا دشوار ہو گا۔ اس لیے انسان کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے سوچو۔ تم نے کیسے اس راستے سے گزرنا ہے۔ اس کی رحمت کے بغیر گزر بڑا مشکل ہو گا۔

**معنی:** وات: راستہ، منزل۔ گھری: بہت، زیادہ۔ اڈینی: مشکل، سخت، خطرناک۔  
پھینی: باریکی۔ تکھی: تیز۔ پھینی: باریک

اُس اوپر ہے مارگ میرا

شیخ فریدؒ پنچھ سماھارا سوریا

**ترجمہ:** اُسی راستے پر سے ہمارا گزر ہو گا۔ وہاں سے ہی گزرنا ہو گا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے شیخ فرید اپنے مذہب اپنے ایمان اپنے اصول کو سنبھالو۔ اس کی حفاظت اس پر عمل کرو پابندی کرو۔ اپنے اعمال درست کرو۔ وہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔

**معنی:** مارگ: راستہ۔ پنچھ: مذہب، ایمان۔ سماھار: سنبھال، حفاظت کرو۔

سوریا: صحیح فجر، وقت پرن

بیڑا بندھ نہ سکیوں بندھن کیہہ دیلا

بھر اسَر ور جب اچھلے تب ترن دھیلا

**ترجمہ:** جب کشتی کو باندھنے کا وقت تھا۔ جب عبادت کا وقت تھا اُس وقت کو تم نے غفلت میں گزار دیا۔ مالک کی عبادت نہ کی۔ اب جب بڑھا پا طاری ہو چکا ہے مشکل

وقت آگیا تو اب اس مالک کو راضی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب بڑھا پا آڑے آ رہا ہے۔ اب اس کی عبادت کرنے میں دن رات بڑھا پا آڑے آ رہا ہے۔

**معنی:** بیڑا: کشتی، ناؤ۔ سیکوں: سکا۔ بندھن: باندھنے۔ کیہہ: کیا۔ ڈیلا: وقت سر: تالاب، جوہر، جھیل۔ ور: بھرا ہوا، خاوند، سہاگ۔ تب: اس وقت۔ ترن: تیرنا۔ ڈھیلا: مشکل، خطرناک

ہتھ نہ لا کس بڑے جل جاسی ڈھولا  
اک اپنی پت لے شوہ کیرے بولا  
ڈھا تھنے نہ آوے پھر ہوئے نہ میلا

**ترجمہ:** پاپا جی دنیا کو کس بڑے کی مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بندے یہ دنیا جو تمہیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ تمہیں تباہ و بر باد کر دے گی۔ یہ تمہاری آخرت خراب کر دے گی۔ فرماتے ہیں ایک اپنا خط پیغام لو اپنے مالک کا خدا کا حکم سنواس نے تجھے نصیحت کی ہے۔ دنیا سے نج جاؤ کہ ایک دفعہ تھن سے ڈھا دھا دھا لیا جائے تو دوبارہ تھن میں دو دھن نہیں آتا ہے۔ ایک دفعہ وقت گزرن جائے دوبارہ پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ پھر دوبارہ میل نہیں ہوگا۔ یہ بس ایک ہی بار ہے۔

**معنی:** لا: لگا۔ کس بڑا: ایک جنگلی سرخ رنگ کا پھول ہے جو ذمکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ سخت کائنے ہوتے ہیں۔ دنیا اس کی مثل ہے۔

ڈھولا: اے پیارے، دوست۔ پت: پتر، خط، چٹھی، پیغام۔ شوہ: مالک، رب تعالیٰ۔ کیرے: بولتا ہے، نصیحت کرتا، حکم دیتا ہے۔ تھن: چوچی، مماں۔ میلا: میل، ملاقات

کہے فرید سہیلیو شوہ الیسی  
ہس چلسی ڈمنا ایہہ تن ڈھیری تھیسی

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ اے ذو سوسا تھیو محسن میں رب تعالیٰ بلائے گا تو نیک لوگ نیک اعمال والے لوگ عاجزی سے چلتے ہوئے جائیں گے اور یہ جسم فنا ہو جائے گا مٹی کی ڈھیری بن جائے گا۔

**معنی:** شوہ: مالک، رب تعالیٰ۔ ایسی: بلائے گا۔ نہ: نیک لوگ۔ ڈمنا: عاجزی تن: جسم، بدن۔ ڈھیری: ڈھیر، تودا

اُٹھ فریدا نہ ستیا جھاؤ دے میت

توں ستارب جا گے تیری ڈاہڈے نال پریت

**ترجمہ:** اے فریدا اٹھو جا گو اپنے من کی مسجد کو صاف اور اُس مالک کا ذکر کرو اور دل کی کدورتیں صاف کرو۔ تو سویا ہوا ہے تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تمہاری دنیا کے مالک سے دوستی ہے جو سب طاقت والا وہ جبار اور قہار بھی ہے۔

**معنی:** ستیا: اے سوئے ہوئے۔ جھاؤ: بھاری: بھوکر۔ میت: مسجد۔ ستیا: سویا ہوا۔ جا گدا: جاگ رہا ہے۔ ڈاہڈے: زور آور، طاقتور۔ نال: سے، ساتھ پریت، دوستی، پیار

آج کہ کل چونہہ دیہیں ملگ اسادی ہیر

کیں جتا کیں ہاریا سُودا ایہی دیر

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں آج کل یا چند دنوں بعد ہمارے کیے کرتے کا حساب ہونے والا ہے اور نامہ اعمال ملنے ہی والا ہے کہ اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے جو بھی کیا ہے یہ بس اسی بار ہے دوبارہ موقعہ نہیں ملے گا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بندے نیک اعمال کر لے جئے دوبارہ موقعہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں آیا صرف ایک ہی بار ہے دوبارہ نہیں آؤ گے۔

**معنی:** چونہہ: چار۔ دیہیں: دلوں۔ ملگ: ملے گا۔ آساؤی: ہماری۔  
ہیر: دولت، نامہ اعمال۔ کیس: کس نے۔ جٹا: جیتا۔ ہاریا: ہارا۔  
سودا: بیو پار، لیکن دین، سوداگری۔ ایہی: اسی۔ ویر: بار

اُچا کرنہ سد فریداً ربِ دلاندیاں جاندا  
جے تدھ وِچ قلبِ مجھا ہوں دور کر

**ترجمہ:** اے فریدا! اتنا اوپنجا نہ پکار تیر ارب تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جو تیرے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں میل کدورت کبر ہے تو اس کا بھی پتہ ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر دے۔

**معنی:** اُچا: اُوپنجا، بلند۔ سد: آواز، بلاؤ۔ دلاندیاں: دلوں کی۔ جاندا: جانتا ہے۔ اگر۔ تدھ: تیرے، تمہارے۔ قلب: دل، من، جی چت۔ سو: وہ مجھا ہوں، میل، بغض۔ ہوں: مان، کبر، غرور

آسِ تساڈی سجنوں آٹھے پھر سماں  
ڈیہوں وَسو منے منه راتیں سپنے نال

**ترجمہ:** اے پیار والے دوستو! تمہارا خیال تمہاری ہمیں پیشہ رہتی ہے۔ دن کو ہمارے دل میں بنتے ہو اور رات سپنوں میں ساتھ رہتے ہو۔ ہم تمہیں کسی وقت بھی اپنے سے جدا نہیں سمجھتے۔

**معنی:** آس: ہمیں، ہم کو۔ تساڈی: تمہاری۔ سجنوں: اے دوستو، پیارو۔  
اٹھے پھر: چوبیں گھٹئے۔ سماں: یاد، خیال۔ ڈیہوں: دن، یوم روز۔ وَسو: بسو۔  
منے: دل، قلب، جی چت۔ ما نہہ: میں، اندر۔ سپنے: سفے

آسرا دھنی منجھاہ کوئ نہ لا ہو کڈھ توں

دے آپوں کاج ہتھاہ دریانے سچا دھنی

**ترجمہ:** مجھے صرف اپنے رب تعالیٰ کا سہارا ہے اُس کے سوا کوئی بھی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا ہے۔ یونہی ادھر ادھر ہاتھ نہ مارا پنے پچھے رب سے مدد مانگ اُسے مدد کے لیے پکارو، یہی مددگار ہوگا۔ اس کے سوا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں ہر حال میں اپنے رب سے مدد مانگو۔

**معنی:** دھنی: مالک، مال دار۔ منجھاہ: مجھے، میں۔ کوئ: کوئی۔ لا ہو: نا خدا، ملاج۔  
کاج: کام، فعل۔ ہتھاہ: ادھر ادھر ہاتھ مارنا۔ دریانے: مددگار۔ سچا دھنی: سچا رب تعالیٰ

فریداںک وہا جیں لوں بیا کستوری جھنگ چوے

باہر لا صبون اندر پچھا نہ تھیوے

**ترجمہ:** ایک بیچارہ نمک بھی بڑی مشکل سے خریدتا ہے اور دوسرا وافر مقدار میں کستوری خرید رہا ہے۔ اپنے وسائل کی بات ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں ظاہر صابن لگائیں سے باطن صاف نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ظاہر کی بجائے اپنا باطن صاف کرو۔

**معنی:** وہا جیں: خریدیں۔ بیا: دوسرا۔ کستوری: ہر کاناقہ، خوشبو، مہک۔  
جھنگ چوے: وافر مقدار۔ صبون: صابن۔ پچھا: ٹھیک، درست، بہتر۔ تھیوے: ہو، ہوئے

اکے تاں سکن اکے تاں پچھ سکیندیاں

تہاں پچھے نہ نمک جو سکن سار نہ جان

**ترجمہ:** کسی کو انتظار ہے اور کوئی انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ انتظار کی گھریاں کیسے گزرتی ہیں کیا حال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے پریشان نہ ہو جو انتظار کی

کیفیت نہیں جانتے کیا ہوتی ہے۔ انتظار کرنے والوں کا ایک ایک پل کیسے گزرتا ہے۔  
**معنی:** اکے: کچھ، کوئی۔ سکن: انتظار کریں، تڑپ۔ تاں: تو۔  
 سکیند یاں: ترستے، انتظار کرتے۔ تہاں: اُن، اُن کے۔ پچھے: پچھے۔  
 منک: پریشان، مر۔ سار: خبر، پستہ، کیفیت۔ جانن: جانیں

**فریدؒ اکے تاں لُوڑ مقدمی اکے تاں اللہ لُوڑ**  
**ڈونہہ بیڑی نال لت دَھر وَنجیں وَکھر بُوڑ**

ترجمہ: اے فریدؒ دنیا کی بڑائی شہرت کو تلاش کرو یا پھر اپنے مالک کو رب تعالیٰ کو تلاش کرو۔ اس سے لوگاؤ اس کا ذکر کرو۔ اسے یاد کرو۔ اسے پکارو۔ دوکشتوں میں پاؤں نہ رکھو اپنا کیا کرتا اپنا مال اسباب سب ڈبو بیٹھو گے۔ دوکشتوں کا سوار کبھی پار نہیں جا سکتا ہے۔ وہ درمیان میں ڈوب جاتا ہے۔

**معنی:** اکے: یا۔ تاں: تو۔ لُوڑ: تلاش کر، ڈھونڈھ۔ مقدمی: دنیاوی شہرت بُوڑ: ڈبو، ڈوب۔ ڈونہہ: دو۔ بیڑی: کشتی۔ لت: مانگ، پاؤں، قدم۔  
 دَھر: رکھ۔ وَنجیں: جائے، جائے گا

**فریدؒ اکناں مت خدادی اکناں منگ لئی**  
**اک وِتی مول نہ گھنڈے جیوں پتھر بُوند پی**

ترجمہ: اے فریدؒ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں خداوند تعالیٰ عقل و دانش سے نوازتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو اس مالک سے سو جھ بوجھ مانگتے ہیں اس سے عقل و دانش عطا کرنے کی دعا کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر کوئی نصیحت کی بھی جائے تو وہ اس پر بھی کان نہیں دھرتے۔ اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ وہ عقل و دانش حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے پتھر پر اگر بارش کی بوند پڑے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا

ہے۔ کیونکہ پتھر میں پانی جذب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح ہی رہ جاتا ہے۔  
**معنی:** اکناں: کچھ کو۔ مت: عقل دانش۔ خداوی: رب کی دی ہوئی۔  
 وَنْگ: مانگ۔ لئی: لی، چاہی۔ وِتی: دی ہوئی، بتائی۔

مُول: ہرگز، بالکل، بنیاد، جڑھ، اصل زر۔ گھنڈے: لیتے۔ جیوں: جیسے، جس طرح۔  
 بُوند: قطرہ، کنی۔ پی: پڑی گمری

### آَوَلَدْ هُو سَاطَھُرُو إِيُوسْ وَنْجَ كَرِيسْ

### مُول سَنْجَا لِيسْ اپَنَا پَاقْحَهَ لَاهَا لِيسْ

**ترجمہ:** بابا جی کہتے ہیں اے دوستو! تلاش کرو غور کرو سوچو۔ دنیا میں ایسا بیو پار کریں ایسا کام کریں کہ جو کچھ ہمیں خدا نے دیا ہوا ہے یعنی جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد آئندہ کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو آگے دوڑ اور پیچھا چوڑ ہو جائے۔

**معنی:** لَدْ هُو: تلاش کرو، غور کرو۔ سَاطَھُرُو: اے دوستو، ساتھیو۔ إِيُوسْ: اس طرح۔  
 وَنْج: بیو پار، لین دین۔ مُول: اصل زر، بنیاد، جڑھ۔ پَاقْحَه: پیچھے، بعد میں۔  
 لَاهَا: نفع، منافع۔ لِيس: حاصل کریں۔

### فَرِيدُّا ایہہ جو جنگل رُکھڑے ہر میل پت تہاں

### پُوچھا لکھیا ارتھ دا ایکس ایکس ما نہہ

**ترجمہ:** اے فرید یہ جو جنگل کے درخت ہیں ان کے پتے بڑے ہرے بھرے ہیں۔  
 یعنی بابا جی دنیا کی دنیا کے انسانوں کی مخلوقات کی مثال دیتے ہیں۔ ہر ایک بندے کا ہر وقت ہر دن کا عمل اس کے اعمال نامے کی کتاب میں درج کیا جا رہا ہے۔ ان کا ہر اچھا برا عمل روزانہ کی بنیاد پر درج کیا جا رہا ہے۔

**معنی:** رُکھرے: درخت، شجر، پیڑ۔ ہر میل: ہرے بھرے۔ پت: پتے۔  
تہاں: ان کے۔ پوچھا: کتابچہ۔ ارتھ: خواہش، قانون، معابدہ، حساب۔  
دا: کا۔ ایکس ایکس: ایک ایک۔ ماںہہ: میں

بڑھا ہو یا شیخ فرید کنبن لگے ٹاہل  
ٹندڑیاں جل لانیا ٹن لگی ماہل

**ترجمہ:** جناب بابا لکھتے ہیں کہ شیخ فرید پر بڑھا پا طاری ہو گیا اور تمام جسم کے اعضاء  
کا پنپنے لگے۔ ہاتھ پاؤں سر لرزنے لگا۔ کمزوری ہو گئی بدن کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اب  
حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے کنویں سے پانی لانے والے لوٹے جس رسی میں بندھے  
ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے لگی ہے۔ وہ بوسیدہ ہو گئی ہے۔

**معنی:** شیخ: بزرگ، برگزیدہ، سنتی۔ ہو یا: ہوا، ہو گیا۔ کنبن: کا پنپنے، لرزنے۔  
ٹاہل: شاخیں، ٹہنیاں، اعضاء۔ ٹندڑیاں: پانی کے کوڑے، لوٹے۔ ٹن، ٹوٹنے  
ماہل: وہ رسی جس میں لوٹے بندھے ہوتے ہیں

فریدا جت تن برا آپچے تت تن کیسا ماس

ات تن ایہہ بھی بہت ہے ہاؤ چام اور ماس

**ترجمہ:** اے فرید جس جسم پر جدائی کا اثر ہو جائے جو اپنے محبوب کی جدائی برداشت کر  
رہا ہو اس جسم پر گوشت کیسے رہ سکتا ہے۔ اس جسم پر اگر چڑی یعنی کھال ہڈیاں اور گوشت  
ہی ہو تو بہت ہے۔ کسی کی جدائی برداشت کرنے والا جسم تند رست موزٹا تازہ نہیں رہ سکتا۔  
وہ تو اس جدائی میں دُ بلا پتلا ہو جاتا ہے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ برا: جدائی، وقت، دوری۔ آپچے: طاری ہو، وارد ہو۔  
تت: وہ، اس۔ ماس: گوشت۔ ات: اس، یہ۔ ہاؤ: ہڈیاں، ہڈی۔

چام: چڑا، کھال، دھوڑی

پریتم تم جانیا تم پچھڑت ہم چین

ڈاہڈے بن کی لاکڑی سُلکت ہوں دن رین

**ترجمہ:** اے میرے پیارے اے میرے محبوب تو یہ سمجھتا ہے کہ سکھی ہوں۔ میں چین سے ہوں تمہارے سے جدا ہونے کے بعد میں سکھی زندگی بس کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے میری حالت ایسی ہے جیسے جنگل کی ایک سخت لکڑی دن رات آگ میں سلگ رہی ہو۔ آگ لگنے سے دھکھرہ رہی ہو۔ اسے آہستہ آہستہ آگ جلانے جا رہی ہوا درود سلگ سلگ کر جل رہی ہو میری بھی ایسی ہی حالت ہے۔

**معنی:** پریتم: محبوب، پیارا، جانی۔ جانیا: جانا، سمجھا، سوچا۔ پچھڑت: پچھڑے، جدا ہوئے مت: شاید۔ ڈاہڈے: بڑے، وسیع سخت۔ بن: جنگل۔ لاکڑی: لکڑی۔ سُلکت: سُلکتی، دھکھتی۔ دن: روز، یوم۔ رین: رات، لیل۔

فریدؒا پر و سارن بیارون گو بُدھ چوین

کنخن راس و سار کر مٹھی دھوڑ بھرین

**ترجمہ:** اے فرید جو اپنے محبوب کو بھلا کر کسی دوسرے کے مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی بابا جی فرماتے ہیں جو اپنے حقیقی مالک کو بھول کر کسی غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ نادان اپنی سونے جیسی دولت کو بھول کر خاک سے یعنی مٹھی سے ہاتھ بھرتے ہیں گندے کرتے ہیں۔

**معنی:** پر: پیارا، محبوب، مالک۔ و سارن: بھلا کیں، بھلا دیں۔ بیا: دوسرا، کوئی اور رون: مائل کریں، تعلق جوڑیں۔ کو بُدھ: نادان، بیوقوف۔ چوین: چاہیں، اختیار کریں، اپنا کمیں

فریداً پیریں بیڑاٹھیل کے گندھیں کھڑانہ رو

وقت نہ آون تھیسا ایت نہ نیندڑی سو

**ترجمہ:** اے فرید جب تمہیں خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر کے سو جھ بوجھ عقل  
دماغ دالش سب کچھ عطا کیا ہے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تجھے اچھائی برائی  
سوچنے جانے کی سوچ دی ہے تو ایسے نہ کر کہ خود ہی کشتی دریا میں بہا کر کنارے پر کھڑا  
دیکھانا رہو۔ اُسے پار لگانے پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں کوئی نیک اعمال کرو۔  
یہاں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہو گا۔ اس ایک ہی بار ہے تو ایسا غافل ہو کر نہ سوچا۔ وقت گزر را  
پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس مالک کو یاد کرو، ذکر کرو۔

**معنی:** پیریں: قدموں سے، پاؤں سے۔ بیڑا: کشتی، ناؤٹھیل: بہا کر، پانی میں ڈال کر  
گندھیں: کنارے پر۔ رہ: رہو، رہ۔ وقت: پھر، دوبارہ۔ آون: آنا، آمد۔  
تھیسا: ہو گا۔ ایت: اتنی۔ نیندڑی: نیند

پیریں گندھے پندرہ ریستی سنجانا

بھٹھہ ہندو لے دا پینگھنا سیتی اجانا

**ترجمہ:** خداوند تعالیٰ نے جو تمہیں ہاتھ پاؤں دماغ دیا ہے اپنے سفر اپنی کوشش کو جاری  
رکھو۔ اپنے راستے کو پہچانو یعنی یہ سوچو میں نے کیا کرنا ہے اپنی منزل کو پہچانو اور اس تک  
پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایسے جھولے کو بھٹی میں ڈال کر جلا دو جس کا جھولنا بے فائدہ ہو۔ جس  
کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یعنی ایسی خواہشات ایسی لذتیں چھوڑ دو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جن  
سے بھلانی نہ ہو۔ وہ کام کرو جس سے تمہیں بھلانی نہ ملے۔

**معنی:** پیریں: قدم، پاؤں۔ گندھے: کنارے، ساحل۔ پندرہ: سفر، مسافت  
بھٹھہ: بھاڑ، بھٹی۔ ہندو لے: جھولے، پنگھوڑا، گھوارہ۔ پینگھنا: جھولنا، جھولے لینا۔  
اجانا: بے مقصد، بے فائدہ

تکل کاسہ کاٹھ دا واسا وچہ وناں

باریں اندر جالنا درویشاں تے ہرناں

**ترجمہ:** بغل میں لکڑی کا پیالہ اور جنگلوں میں آجاؤں میں بسیرا ایسی جگہوں میں قیام جو دیران ہوں آجاؤں ہوں۔ تو ایسی آجاؤں ایسے جنگلوں میں صرف ہرنوں اور فقیروں کی زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ یعنی فقیر اور ہر جنگلوں میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اُن کا دنیا کی رونقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ دیرانوں میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔

**معنی:** تکل: پیٹھ، کمر، بغل۔ کاسہ: پیالہ، فقیر کا لھوٹھا۔ کاٹھ: لکڑی۔

واسا: بسیرا، مقام۔ وچ: میں۔ وناں: جنگل، دیرانے، ایک درخت۔ باریں: جنگلوں میں جالنا: گزارنا، بسر کرنا، جلانا۔ درویشاں: فقیر و کا۔ ہرناں: غزال، آہو

فریدُ اتن رہیا من پھٹیا طاقت رہی نہ کائے

اٹھ پری طبیب تھیو کاری دارو لائے

**ترجمہ:** اے فرید جسم کمزور ہو گیا ہے دل ڈکھی ہے اور ہمت جواب دے گئی کمزوری نے بے بس کر دیا ہے چلنے پھرنا دشوار ہو گیا ہے۔ اے میرے محبوب میرے پیارے میرے طبیب میرے معانج بن کر آؤ اور مجھے ایسی دوا دو جس سے مجھے شفاف نصیب ہو۔ صرف تمہارے دیدار سے ہی مجھے شفا ملے گی۔ تمہارا دیدار ہی میرا علاج ہے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ رہیا: رہ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ من: دل، جی، چت پھٹیا: زخمی ہے، ڈکھی ہے۔ کائے: کوئی۔ پری: پیارا، محبوب، مالک۔

طبیب: حکیم، معانج۔ تھیو: ہو، نیوں۔ کاری: کار آمد۔

دارو: دور، علاج، شراب، قے، خمر۔ لائے: دے، پلائے

تن سَمَند نَسَا لَهْر اُرْتارو تَرِیں آنیک

تے بِرہی کیوں جیوت ہے جو آہ نہ کرتے ایک

**ترجمہ:** جناب بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ جسم ایک سمندر کی مانند ہے اور دل کی امید یہ ارمان خواہشات بے شمار ہیں جو موجود لہروں کی طرح آپس میں ٹکراتی ہیں اور دل کو کہتی ہیں کہ ہمیں پورا کرو۔ جیسی ہم چاہتی ہیں ویسی کرو لیکن جو اپنے محبوب سے اپنے مالک سے بچھڑے ہیں جدا ہیں اپنے محبوب سے دور ہیں وہ کیسے جیتے ہیں کیسے زندگی بر کرتے ہیں جو لوگوں سے سی تک نہیں کرتے ایک آہ بھی نہیں بھرتے ہیں۔ خاموشی سے اس کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔

**معنی:** تن: جسم، بدن۔ سمند: گھوڑا، سمندر، بحر۔ نسا: دل کی آس، امید، خواہشات۔ لہر: موج۔ اُر: اور۔ تارو: تیراک، تیرنے والے۔ آنیک: متعدد، بے شمار۔ بِرہی: جدا، بچھڑا ہوا۔ کیوں: کیسے، کس طرح۔ جیوت، زندہ۔ آہ: پکار

فَرِيداً تُؤْتُونَ تُؤْتُونَ كَرِينَدَ مُؤْنَى بَهْيَ تُؤْتُونَ تُؤْتُونَ كَرِنَ

جَنَهِيْنَ تُؤْتُونَ تُؤْتُونَ نَهْ كِيَا تَنَهِيْنَ نَهْ سَجَا تُؤْتُونَ تُؤْتُونَ

**ترجمہ:** اے فرید جو اپنی زندگی میں تو ہی تو یعنی کہتے ہیں کہ اے تو ہی تو ہے تیرے علاوہ اور کوئی اس شان کے لا اُق نہیں ہے یعنی اپنے رب کاذک رکرتے ہیں اُسے ہی پکارتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اُسے ہی پکارتے ہیں اُسی کاذک رکرتے ہیں اور جو اس اپنے مالک کو نہیں پکارتے اس کاذک نہیں کرتے وہ اس کی شان کو نہیں پہچان سکے بلکہ وہ اپنا آپ بھی نہیں پہچان سکے کہ ہم کیا ہیں۔

**معنی:** تُؤْتُونَ: تو ہی تو، رب تعالیٰ کاذک۔ کَرِينَدَ: کرتے، کرتے ہوئے۔

مُؤْنَى: مر گئے۔ مرے: مرے ہوئے۔ أَرَنَ: کریں، کرتے ہیں۔ جَنَهِيْنَ: جنہوں نے تَنَهِيْنَ: انہوں نے۔ سَجَا تُؤْتُونَ: پہچانا۔ تُؤْتُونَ: جسم، اپنا آپ

فریداً ایہہ مسجدیں أبو تھیاں رکھیاں رب سوار

جان جان الیں جہاں منہہ تاں تاں دیکھیں جار

**ترجمہ:** اے فرید یہ جو مسجدیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ رب تعالیٰ کے امر اور اُس کی رحمت سے تعمیر ہوئی ہیں اور رب تعالیٰ نے سنوار کر سجار کھی ہیں اور آباد کی ہیں۔ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ہم انہیں آباد ہی دیکھیں گے اور انہیں جاری ہی دیکھیں گے۔ یہ تاقیامت سلامت اور آباد رہیں گی۔

**معنی:** ایہہ: یہ۔ أبو تھیاں: تعمیر، اساریں۔ سوار: سنوار، سجا کر۔ جان جان: جب تک منہہ: میں۔ تاں تاں: تہ تک۔ جار: جاری، آباد، سلامت

سائیں سندے نہ ذکھے دائم پری چون

رب نہ بھنے پوریا سندے فقیرن

**ترجمہ:** جن کا رب جن کا مالک اُن سے ناراض نہ ہو وہ ہمیشہ اس کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اُس کی عطا حاصل کرتے رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کبھی فقیروں کے سہارے اور امیدیں نہیں توڑتا ہے۔ رب تعالیٰ فقیروں کا خود محافظ اور مددگار ہوتا ہے۔ وہ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔

**معنی:** سائیں: مالک، رب تعالیٰ۔ سندے: کا، جنکا۔ ذکھے: ناراض۔ دائم: ہمیشہ، سدا پری: پیارا، محبوب، جانی۔ چون: پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ بھنے: توڑے۔ پوریا: آس، امید۔ فقیرن: فقیروں کا، کی

لٹھی مارن گا کھڑی سدھراں لکھ گرن  
و جہاں دامن دھرا پیاسے ماںک لیھن

**ترجمہ:** بڑے مشکل مرا بے کرتے ہیں اور اُسِ مالک سے دل میں لاکھوں تمنا میں لگائے رکھتے ہیں جنہوں نے اس کے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے جو اُس کے دروازے پر سائل بن کر بیٹھے ہیں۔ انہیں موتی مل جاتے ہیں وہ اپنی مرادیں پالیتے ہیں۔ ان پر اس کی عطا میں ہوتی ہیں۔ وہ مالک کسی کی محنت رایگاں نہیں جانے دیتا۔ کئے کا تھل ضرور دیتا ہے۔ اس سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ وہ عطا کرتا ہے۔ بس مانگنا سیکھو۔

**معنی:** بُھی: غوطہ، ڈُکی۔ مارن: لگائیں۔ گاکھری: مشکل، سخت۔

سدھراں: خواہشات، امیدیں۔ جنہاں: جنہوں نے۔ دامن: جھوولی، پلہ۔  
وَھرَاپیا: رکھا ہے، پھیلایا ہوا ہے۔ سے: وہی، وہ ہی، وہ۔ مانک: موتی، گوہر، ذر  
لَهْن: حاصل کریں، پائیں

ٹوپی لیندے باورے دیندے کھرے نج

چوہا کھڈ نہ ماوی پچھے بندھیئے چجھ

**ترجمہ:** فقیری کی دستار ہی وہ لوگ اپنے سر پر رکھتے ہیں یعنی فقیری وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو اس کی مشکلات تکلیفوں دکھوں سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور فقیری کی دستار وہ پہناتے ہیں کہ جو یہ تمام مشکلات دنیا کے گلے شکوئے طعنے برداشت کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ جیسے چوہا اپنی بل اپنی پناہ نہیں چھوڑتا ہے خواہ اس کے پچھے چھاج ہی کیوں نہ باندھ دیا جائے۔

**معنی:** ٹوپی: دستار، پکڑی۔ لیندے: لیتے، باندھتے۔ باورے: دیوانے، پلگے

دیندے: دیتے، باندھتے۔ کھرے: خالص، بہت زیادہ۔

نج: جنہیں اپنی عزت شوکت کی پرواہ نہ ہو۔ کھڈ: بل۔ ماوی: پناہ گاہ۔

چجھ: چھاج، اناج صاف کرنے کے لیے سر کنڈے کا بنا ہوا

**فریدا جاگنا ای تاں جاگ راتڑی ہمھو دھانیاں**

بے مُوں متھے بھاگ پری و سارن نہ کرن

ترجمہ: اے فرید تو نے جاگنا ہے تو جاگورا تیں تو تمام بڑھنی ہیں راتیں تو سب لمبی ہوں گی۔ اگر انسان کے نصیب اچھے ہوں اُس کا محبوب اس کا مالک اُسے کبھی نہیں بھلاتا ہے۔ اُسے کبھی جدا نہیں کرتا ہے اسے اپنے قریب ہی رکھتا ہے۔

**معنی:** ای: ہے۔ تاں: تو۔ راتڑی: رات، لیل۔ ہمھو: تمام، سب، کل و دھانیاں: بڑھنی ہیں۔ کرنا: کریں۔ بے: اگر۔ مُوں: منہ، چہرہ۔

بھاگ: نصیب، مقدار، برات۔ پری: پیارے، محبوب، مالک۔ و سارن: بھلائیں

**فریدا جاگنا ای تاں جاگ ہوئی آپر بھات**

اس جاگن نوں پچھتا میں گاگنا سویں گارات

ترجمہ: اے فرید تو نے جاگنا ہے تو جاگو اٹھو صبح صادق ہونے کو ہے۔ اگر ابھی آج نہیں اٹھے گا تو پھر اس جانے کے لیے پچھتا گا کہ میں اس وقت کیوں نہیں اٹھا تھا۔ کیوں نہیں جا گا تھا تو اس زیادہ راتوں کے سونے پر آ خرشنده ہو گا لیکن پھر تمہارا پچھتا نا کسی کام نہیں آئے گا۔ کیونکہ گزر اوقت دوبارہ نہیں آتا ہے۔

**معنی:** تاں: تو۔ آ: ہے۔ پر بھات: صبح، سوری۔ نوں: کو۔ پچھتا میں گا: شرمندہ ہو گا، پشیمان ہو گا۔ گنا: زیادہ۔ سویں گا: سوئے گا

**فریدا جتنی خوشیاں کپتیاں تتنی تھیں روگ**

چھلوں کارن ماریئے کھادے دا کیا ہوگ

ترجمہ: اے فرید جتنی خوشیاں عیش و عشرت کی ہے اتنی تکلیفیں ذکر برداشت کرنے

پڑیں گے اتنی ہی زیادہ سزا بھگتی پڑے گی۔ اتنی ہی زیادہ امراض ہوں گی۔ وہاں تو چھلکوں کی بھی سزا ملتی ہے تو جس نے پورا پھل کھایا ہے اس کا کیا بننے گا۔ اس کا کیا ہوگا۔ سب کو اپنا اپنا کیا بھگتنا پڑے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔

**معنی:** جتنی۔ کیتیاں کیں۔ تیں۔ اتنی، اتنی ہی۔ تھیں: ہوئے، ہوں گے۔ رُوگ: بیماریاں، امراض، دُکھ۔ چھلوں: چھلکوں۔ کارن: کے لیے۔ ماریئے: مارتے، سزادیتے۔ کھادے: کھائے۔ ہوگ: ہوگا

فَرِيدًا جاں جاں جیویں دُنیٰ تے تاں تاں پھر الکھ

دَرْگَاه سچا تاں تھیویں جاں چھن مول نہ رکھ

**ترجمہ:** اے فرید توجہ تک اس دنیا میں زندہ ہے اُس مالک کا نام پکارتارہ اس کا ذکر کرتے رہو۔ روز محشر اس کی بارگاہ میں تو تب ہی سچا ہوگا جب تیرے پاس تیرا کفن بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تیرے کام کی نہیں اس کا لائق نہ کر۔ اس مالک پر بھروسہ رکھو وہ سب کچھ دینے والا ہے۔

**معنی:** جاں جاں: جب تک۔ جیویں: زندہ ہے۔ دُنیٰ: دنیا، جہان، عالم تے: پر۔ تاں: تب۔ الکھ: اسم اعظم، ذکر الہی۔ درگاہ: بارگاہ الہی، مزار ولی اللہ آسانہ تھیویں: ہوگا۔ چھن: کفن۔ مول: ہرگز، بالکل۔ رکھ، رکھنا

جستا سے راتیں وڈھیاں دُو دُو گانڈھیاں

تم اک جاں نہ سنگھیاں اسماں سمجھے جانیاں

**ترجمہ:** اے پیارے وہ راتیں بڑی لمبی ہیں بابا جی عالم بزرخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بندے وہ راتیں تو بہت بڑی ہیں۔ بڑی لمبی ہیں وہ دودو جڑی ہوئی ہیں اے بندے

تم نے دنیا میں ایک رات جاگ کر اس مالک کا ذکر نہیں کرتے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم نے پھر وہ رات میں بھی گزارنی ہیں جو بڑی طویل ہیں۔ بندے کو فصیحت کرتے ہیں راتوں کو جاگو اور اپنے مالک کا ذکر کرو۔ تاکہ تمہارے لیے وہ رات میں گزارنی آسان ہوں۔

**معنی:** جستا: اے پیارے، اے دوست۔ رات میں: رات میں۔ ڈھیاں: بڑی، لمبی، طویل ڈوڈو: دودو۔ گانڈھیاں: جوڑنی ہیں۔ جال: گزر، بسر۔ سنگھیاں: سکے، سکا۔ اسماں: ہم نے۔ سچے: تمام، کل، سب۔ جالنیاں: گزارنی ہیں۔ سے: وہ، سینکڑوں

جائ مُوں لگا نیہنہ تاں میں ڈکھ وہا جیا  
جھراں ہبھوں ہی ڈیہنہ کارن سچے ما پری

**ترجمہ:** جب مجھے اپنے محبوب سے پیار ہوا مالک سے لوگی تب سے میں نے دکھ خرید لیے۔ دکھوں کا بیو پار کر لیا۔ اپنی جھولی میں مشکلات ڈال لیں۔ سارا دن اپنے مالک کے سامنے گریہ و گزاری کرتا رہتا ہوں۔ اس کا دیدار اور بخشش مانگتا رہتا ہوں۔

**معنی:** جال: جب۔ مُوں: مجھے۔ نیہنہ: محبت، عشق، ٹو۔ تاں: تب، تو۔ ڈکھ: ڈکھ، تکلیفیں۔ وہا جیا: خریدا، خرید کیا۔ جھراں: گریہ زاری کرو۔ سبھو: تمام ڈیہنہ: دن، روز، یوم۔ کارن: کے لیے۔ ما پری: اپنے محبوب کے لیے

فریدا جنگل ڈھونڈھیں سنگھناں لئے لڑیانہ وقت  
تن جھرہ درگاہ دا تس وچہ جھاتی گھت

**ترجمہ:** اے فرید کوئی گھنا جنگل تلاش کرایے ہی طویل سفر نہ کرنا پھر ایسے ہی نہ گھومنا پھر۔ ایسے اسے تلاش نہ کرتا پھر۔ تیرا جسم اس مالک کی قیام گاہ ہے وہ اسی میں رہتا ہے۔ ذرا اس میں جھائک کر دیکھو۔ اس میں نظر ڈالو۔ وہ مالک تمہیں اسی میں ملے گا۔ جنگلوں

بیانوں میں کیوں پھرتا ہے۔

**معنی:** ڈھونڈھیں: تلاش کریں۔ سنگھنا: گھنا۔ لئے: لمبے، طویل۔ لٹویا: چلتا، بہتا  
تن: جسم، بدن۔ حجرہ: مقام، قیامگاہ۔ درگاہ: بارگاہِ الہی، آستانہ۔ تس: اس۔  
وچہ: میں۔ جھاتی: نظر، نگاہ۔ گھت: ڈال، دیکھے

فریدا جیس دار لگے نیہنہ سو ورنائیں چھڑنا

آپے بھاویں بینہ سر ہی اوپر جھلنا

**ترجمہ:** اے فرید جس دروازے سے عشق ہو جائے پیار ہو جائے، لوگ جائے وہ  
دروازہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ خواہ کتنی مشکلیں تکلیفیں برداشت  
کرنی پڑیں اور رکھتے ہیں اگر بارش بھی ڈکھوں کی بر سے تو سر پر جھیلنی چاہیے برداشت  
کرنی چاہیے۔ ادھر سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اسی دروازے پہ جانا چاہیے۔

**معنی:** جس: جس۔ دار: دروازہ، چوکھ۔ نیہنہ: محبت، عشق، پیار۔ سو: وہ، وہی  
نہیں: نہیں، نہ۔ چھڑنا: چھوڑنا۔ آپے: آپے، آگرے۔ نیہنہ: بر سات، بارش  
جھلنا: برداشت کرنا، جھیلننا

فریدا بے توں دل ورویش رکھ عقیدہ سا ہمنا

دارہی سیتی ویکھ متحا موڑ نہ گند دے

**ترجمہ:** اے فرید اگر تجھ میں فقیروں والا دل ہے فقیروں کی خوبی ہے تو اپنا یقین ملکہ  
رکھو۔ پکا ارادہ کرو۔ کبھی دل میں غیر خیال نہ لاؤ۔ اسی دروازے کی طرف دیکھو اسی سے  
آس لگائے زکھواس سے کبھی منہ نہ پھیرو۔ اس طرف سے کبھی لگاؤ نہ توڑو، کبھی پیچھا نہ  
کرو۔ اسی سے جڑے رہو۔

**معنی:** جے: اگر۔ درویش: فقیر۔ ساہمنا: سامنے، پکا، یقین۔ سیتی: کے لیے، سے  
متھا: ماتھا، جبیں۔ کندھ: پیٹھ، پیچھا

فریدؒ جے تو ونجیں حج ج ہبھو ہی جیا میں

لاہ دلے دی لح سچا حاجی تاں تھیویں

**ترجمہ:** اے فرید اگر تو حج کرنا چاہتا ہے حج پر جانا چاہتا ہے تو حج تو تمہارے دل میں ہے۔ جس کا تو نے حج کرنے جانا ہے وہ تو تمہارے دل میں ہے۔ تو کعبے جانا چاہتا ہے کعبہ والا تو تمہارے دل میں بستا ہے۔ جب تو اپنے دل سے شرم اُتار دے گا یعنی دل سے حسد، بغض، کدورت، نکال دے گا دل کی میل اُتار دے گا تب تو سچا حاجی بنے گا۔ ورنہ تمہارے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر حج کرنا چاہتا ہے ایسا حج کرو۔

**معنی:** جے: اگر۔ ونجیں: جائے، جانا چاہتا ہے۔ ہبھو: سب، تمام، کل جیا: دل، من، چت۔ لاہ: اُتار، کھول۔ دلے دی: دل کی۔  
لح: شرم، عزت۔ تاں: قب۔ تھیویں: ہوگا

جے جے جیویں دُنی تے ٹھریئے کہیں نہ لا

اکو ٹھپھن رکھ کے ہور سبھو دے لٹا

**ترجمہ:** اے فرید جب تک تو اس دنیا میں زندہ ہے اس دنیا کو اپنا پکا ٹھکانہ نہ جان لے دنیا کی رنگینوں میں اپنے آپ کونہ لگا۔ دنیا کی آسائشوں میں نہ جا اس دنیا کو اپنا عارضی ٹھکانہ جان کر زندگی بسر کر۔ بس اپنے پاس صرف اپنا کفن رکھ کر باقی دنیا کا مال دنیا کے حاجت مندوں میں بانٹ دے دنیا کا لالج نہ کر (یہ دنیا مردار ہے اور دنیادار کتے) حدیث نبوی۔

**معنی:** جے جے: جب تک۔ جیوں: زندہ ہے۔ فُلی: دنیا، جہان، عالم کریے: قدم، پاؤ۔ لاء: لگا، جما۔ اکو: ایک ہی۔ چھسن: کفن۔ ہور: اور۔ سحو: تمام، کل، سب۔ لٹا: بانٹ، تقسیم

چُوڑیلی سیوں رَتیا دُنیا کُڑا بھیت

انہیں آکھیں ویکھدیاں اُجڑ و نجہ کھیت

**ترجمہ:** یہ دنیا ایک عورت کی طرح چوڑیاں پہنے بنی سنوری حسین نظر آتی ہے۔ یہ بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اصل میں یہ ایک جھوٹا راز ہے۔ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان آنکھوں کے سامنے کھیت اُجڑ جاتا ہے۔ سب کچھ بر باد ہو جاتا ہے۔ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔

**معنی:** چُوڑیلی: چوڑیاں پہنے ہوئے۔ سیوں: سے۔ کُڑا: جھوٹا، کاذب۔ بھیت: راز، بھید۔ انہیں: ان سے۔ آکھیں: آنکھیں۔ ویکھدیاں: دیکھتے ہوئے اُجڑ: بر باد، اُجڑ۔ و نجہ: جائے

فریداً داڑھیاں لکھ وتن ہبھ نہ اکو جیہاں

اک در لکھ لہن اک سکھوں ہولیاں

**ترجمہ:** اے فرید لاکھوں باریش اس دنیا میں لوگ پھرتے ہیں۔ سب داڑھیاں سب داڑھیوں والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک وہ باریش ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے قیمتی مولی حاصل کر لیے ہیں۔ یعنی وہ نیک با اصول لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایسے عمل بھی ہیں جو باریش ہونے کے باوجود تنکوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کی داڑھیاں تنکوں سے بلکی ہیں۔

**معنی:** وتن: پھرتے ہیں، پھرتی ہیں۔ نہھ: سب، تمام، کل۔ جہیاں: جسی  
ڈر: موتی، گوہر۔ لہن: حاصل کریں، ہوں۔ اک: ایک۔ گکھوں: تنکوں سے۔  
ہولیاں: بلکی

**فریدؒ ا در د سائیاں کانیاں رب نے گھڑئین**

**لگن۔ تہاں منافقاں جو کدی نہ جائیں**

**ترجمہ:** اے فرید یہ جود روازے میں نظر آنے والے تیر چھمکیں ہیں یہ رب تعالیٰ نے  
ہی گھڑائی ہیں۔ یہ ان منافق لوگوں کو لگیں گی جو یہ کبھی نہیں جائیں گے۔ ان کو ان کی کبھی  
خبر بھی نہیں ہوگی۔

**معنی:** د سائیاں: نظر آئی ہیں۔ کانیاں: تیر۔ گھڑئین: گھڑی ہیں۔ لگن: لگیں۔  
تہاں: انہیں، ان کو۔ کدھیں: کبھی۔ جائیں: جائیں

**فریدؒ ا روگ نہ و نجم داروں میں بے لکھ طبیب لگن**

**چنگی بھلی تھلی بہاں بے موس پری ملن**

**ترجمہ:** اے فریدؒ میری امراض دواؤں سے کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دواؤں سے مجھے کبھی  
شفاء نہیں چاہیے۔ لاکھوں معانج میرا علاج کریں مجھے کسی کی دوائے شفا نہیں ہوگی۔ یہ  
مرض دواؤں سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر میرا محبوب میرا مالک ایک دفعہ میرے  
سامنے آ جائے مجھے اپنا دیدار دے دے تو میں اچھی بھلی تند رست ہو کر بیٹھ جاؤں۔ میری  
مرض جاتی رہے مجھے میرے مالک کے دیدار سے ہی شفا ہوگی۔

**معنی:** روگ: بیماری، مرض۔ و نجم: جائیں، دور ہوں۔ دارواں: دواؤں سے  
بے: اگر۔ طبیب: حکیم، معانج۔ لگن: لگیں، علاج کریں۔ چنگی: اچھی، تند رست  
تھی: ہو جاؤں۔ بہاں: بیٹھوں۔ موس: مجھے۔ ملن: ملیں، دیدار دیں

فریدا دل اندر دریا و کندھی لگا کیپہ پھرے  
ڈبھی مار منجھا ہیں منجھوں ہی ماںک لہن

**ترجمہ:** اے فرید تیرے دل میں ایک دریا ہے تو کناروں پر کیوں پھر رہا ہے کناروں سے کیا تلاش کر رہا ہے۔ درمیان میں گہرا غوطہ لگا موتی ہمیشہ گہرائی سے ملتے ہیں۔ دریا کے اندر داخل ہو کر دیکھتے ہی سچھے کچھ حاصل ہو گا۔

**معنی:** دریا و دریا، بحر، ساگر۔ کندھی: کنارہ، ساحل۔ کیپہ: کیا۔ پھریں: پھرتا ہے۔ ڈبھی: غوطہ، ڈبکی۔ منجھا ہیں: درمیان، گہرائی۔ منجھوں: درمیان سے ہی۔ ماںک: موتی، گہر، ذر، وتحہ۔ لہن: بلیں، حاصل ہوں، فائدہ۔

فریدا دامہ وجیا موت دا چڑھیا ملک الموت  
گھن وا ہے جندڑی ڈھاہن وا ہے گوٹ

**ترجمہ:** اے فرید موت کا نقارہ بجادیا گیا ہے۔ عزرا سیل جان قبض کرنے کے لیے آگیا ہے۔ موت کا وقت آپہنچا۔ روح جسم سے نکال کر چل دیا۔ قلعہ گرا گیا حصہ ختم کر گیا۔ اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ موت کے سامنے کسی کا زور نہیں۔

**معنی:** دامہ: نوبت، نقارہ۔ وجیا: بجا۔ ملک الموت: موت کا فرشتہ۔  
گھن: لے۔ وا ہے: گا۔ جندڑی: روح جان۔ ڈھاہن: گرا۔ گوٹ: قلعہ، حصہ

کوٹ ڈھنھا گھر لیا ڈیرے پی کہا

جیوندیا ندے ہور راہ مویا ندے ایہ راہ

**ترجمہ:** قلعہ مساز کر دیا گیا گھر لٹ گیا روح قبض کر لی گئی ڈیرے پر ماتم شروع رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کیونکہ جینے والوں کے اور راستے اور طریقے ہیں اور مرنے والوں کا

یہی راستہ ہے۔ ان کا راستہ یہی ہوتا ہے۔

**معنی:** کوٹ: قلعہ، حصار۔ ڈھنھا: گرا، مسار ہوا۔ لٹیا: لوٹ لیا۔ پی: پڑی۔

کہا: رونا دھونا، ماتم، بین۔ جیوندیاں: زندے۔ مویاں: موت کے بعد۔

ایہہ: یہی، یہی، یہی

فریداً دُنی دے لائچ لکیاں محنت بھل گئی

جان سر آئی اپنے سبھو ویر گئی

**ترجمہ:** اے فرید دنیاداری میں پڑ کر دنیا کے لائچ میں پڑ کر محنت یعنی خداوند تعالیٰ کا ذکر بھول گیا۔ اس کو یاد کرنا بھول گیا۔ غفلت آگئی اور جب بات اپنے سر پر آئی تو سب کچھ بھول گیا۔ کچھ بھی یاد نہ رہا۔

**معنی:** دُنی: دنیا، جہاں۔ لائچ: لو بھو، حرص۔ لکیاں: لگے۔ بھل: بھول گئی۔

جان: جب۔ سبھو: تمام، کل، سب۔ ویر: بھول

فریداً سکاں سک سکیندیاں سکن ڈینہے رات

مینڈیاں سکاں سبھو ونجن جان پریا پائی جھات

**ترجمہ:** اے فرید دن رات دل میں ارمان لیے خواہشات لیے ترستے تڑپ رہے ہیں۔ میری تمام خواہشات ارمان پوربے ہو جائیں جب میرا محبوب میرا مالک میری طرف ایک نگاہ کرم سے دیکھ لے سب ارمان ہٹ جائیں۔ دلی سکون مل جائے۔ جب میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔

**معنی:** سکاں: خواہشات، ارمان۔ سکیندیاں: دل میں ارمان لیے۔

سکن: خواہشات رکھیں۔ ڈینہے: دن، روز، یوم۔ مینڈیاں: میری۔ سکاں: خواہشات

سچھ: تمام، کل۔ ونجن: جائیں۔ جاں: جب۔ پریا: محبوب، مالک۔ جھات: نظر

فریداً دیہے جرجر ہوئی نین وہ سریش

سے گواہ منجھا تھیا آنگن تھیا بدیں

ترجمہ: اے فرید جسم لرزنے لگا کاپنے لگا آنکھوں میں پیک آنے لگی بینائی کم ہو گئی۔ اب سینکڑوں کوس پر چارپائی دکھائی دیتی ہے اور صحن تو ایسے لگتا ہے جیسے دوسرا کوئی غیر ملک ہو۔ ہر چیز قریب پڑی ہوئی بھی دور دکھائی دیتی ہے۔

معنی: دیہے: جسم، بدن۔ جرجر: تھر تھرا ہٹ، لرزہ۔ سریش: پیپ۔ وہ: جاری، بہبہ سے: سینکڑوں۔ کوس: ڈیڑھیل کا فاصلہ۔ منجھا: چارپائی، کھاث۔ تھیا: ہوا۔ آنگن: صحن۔ بدیں: غیر ملک

فریداً سور سچا سیوں جت مکلو بنی جاہ

رج متک ہڈ کھوہ عمل نہ وکن کھاہ

ترجمہ: اے فرید مالک کا دروازہ سچا اور بڑا وسیع ہے۔ جس کا طول و عرض کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اور ہم کیا ہیں چوڑا ما تھا ہڈیاں کنوں کی طرح اور ہمارے اعمال تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔

معنی: سو: وہ۔ در: دروازہ۔ سیوں: ہے۔ جت: جس۔ مکلو: ملکی۔

جاہ: جگہ۔ رج: چوڑا۔ متک: ما تھا، جبیں۔ ہڈ: ہڈیاں۔ کھوہ: کنوں۔

وکن: فروخت ہوں۔ کھاہ: راکھ، مٹی

—

فریداً سے داڑھیاں کوڑیاں جو شیطان بھجن

آہرن تلے ودان جیوں دوزخ کھڑ دھرئین

ترجمہ: باباجی فرماتے ہیں اے فرید وہ داڑھیاں یا وہ باریش لوگ جھوٹے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ان کی داڑھیاں صرف دکھلاوے کی ہیں۔ ان کے ساتھ جہنم میں اس طرح ہوگا جس طرح ودان کے نیچے آہرن چوٹیں کھاتی ہے۔ ان کو اسی طرح جہنم میں لے جا کر رکھ دیا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

معنی: سے: وہ۔ کوڑیاں: جھوٹی۔ بھجن: بہکاو۔ تلے: نیچے۔ ودان: بڑا ہتھوڑہ جیوں: جیسے۔ کھڑے: لے جائے۔ دھرئین: رکھیں

فریداً ایسا ہو رہو جیسے لکھ میت

پیراں تلے لتاڑیے کدی نہ چھوڑے پریت

ترجمہ: اے فرید اس دنیا میں ایسے ہو کر رہو جیسے مسجد میں بچھائے ہوئے گھاس کے تنکے ہوتے ہیں۔ ان کو پاؤں کے نیچے رومندا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی وہاں رہتے ہیں۔ وہ خدا کے گھر کو نہیں چھوڑتے ہیں۔

معنی: لکھ: تنکا گھاس۔ میت: مسجد۔ پیراں: قدم، پاؤں۔ تلے: نیچے۔ لتاڑیے: رومندیں۔ کدی: کبھی۔ پریت: دوستی، ساتھ

فریداً ایسا ہوئے رہو جیسے لکھ میت

پیراں یہٹھ لتاڑیے صاحب نال پریت

ترجمہ: اے فرید اس دنیا میں ایسے رہو جیسا مسجد میں گھاس کا تنکا۔ اس کو نمازی پاؤں تلے رومندتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ مالک کی رضا پر راضی

رہتا ہے۔

**معنی:** لکھ: گھاس کا تنکا۔ مسیت مسجد۔ پیراں: پاؤں، قدم۔ یڑھ: نیچے۔  
لتاز یے: روندیں۔ صاحب: مالک، رب جلیل۔ نال: ساتھ۔ پریت: محبت، لگاؤ

سائیں سیویاں کھل گئی ماں نہ رہیا دیہہ

تب لگ سائیں سیوساں جب لگ ہوسوں کھیہ

**ترجمہ:** مالک کا اور دکرنے سے جسم پر کھال نہ رہی اور بدن پر گوشت نہ رہا۔ سب سو کھ گئے۔ میں اُس وقت تک اپنے مالک کا ذکر کرتا، ہوں گا جب تک میں مرکر مٹی نہیں ہو جاتا۔ جب تک جان میں جان ہے خدا کا ذکر کرتا رہوں گا۔ اپنے مالک کو پکارتا رہوں گا۔

**معنی:** سائیں: مالک، باری تعالیٰ۔ سیویاں: عبادت کرتے ہوئے۔

کھل: چڑی، کھال، پوش۔ ماں: گوشت۔ رہیا: رہا۔ دیہہ: جسم، بدن۔  
تب لگ: اس وقت تک۔ سیوساں: ذکر کروں گا۔ جب لگ: جب تک۔  
ہوسوں: ہوں گا۔ کھیہ: مٹی، خاک

فریداً پاؤں پار کے اٹھے پھر ہی سوں

لیکھاں کوئی نہ پچھیسی جے و چوں جاوی ہوں

**ترجمہ:** اے فرید چوبیں گھٹنے دن رات سدا، ہی پاؤں لمبے کر کے چادر تان کر سوئے رہو۔ تمہیں سے کوئی حساب نہیں مانگے گا کوئی پرش نہیں ہوگی۔ اگر اپنے دل سے میں یعنی تکبر غرور مغروری ختم کر دو اُس مالک کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کر دوں سے تسلیم کر لو کہ مالک تو ہی عظیم ہے تیرا کوئی ثانی نہیں ہے۔

**معنی:** پیر: قدم، پاؤں۔ پار کے: لمبے کر کے۔ اٹھے پھر: چوبیں گھٹنے۔

سوں: سوئے رہو۔ لیکھا: حساب۔ پچھی: پوچھئے۔ بجھے: اگر۔ جاوی: چلی جائے ہوں: میں، تکبر، غرور، مغزوری، مان

فریداً رات میں چار پھر ڈوستا ڈو جاگ

گھنا سوں میں گور ماں لہسیا ایہہ دراگ

ترجمہ: اے فرید رات میں بڑی طویل میں 12 گھنٹے کی ہیں تم آدھی رات سویا کرو۔ ایک آدھی رات جاگ کر اپنے مالک کا ذکر کیا کرو اُسے یاد کیا کرو۔ اس کو راضی کرو۔ بجھے قبر میں بہت سونے کا موقعہ ملے گا۔ سونے کی یہ تمہاری حسرت وہاں پوری ہو جائے گی۔ قبر میں تمہیں محشر تک سونا ہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جاگ کر مالک کو راضی کرو۔ اس کا ذکر کرو۔

معنی: رات میں: رات میں، لیل۔ ڈو: دو۔ سُتا: سویا۔ جاگ: جاگو۔ گھنا: زیادہ سوں میں: سوئے گا۔ گور: قبر، لحد۔ ماں: میں۔ لہسیا: اُتر جائے گا، پورا ہو گا۔ دراگ: حسرت، ارمان، آرزو

رات میں سویں کھٹ فریداً ڈیں ہمیں پیٹ گوں

جاں توں کھٹشن ولیں تیں تداہیں رہیوں سوں

ترجمہ: رات کو بسٹر پر چار پائی پہ سوتا ہے اور دن کو پیٹ پالنے کے لیے روزی کی تلاش میں پھرتا ہے۔ پیٹ کے لیے پیٹتا ہے جب تمہارا کمانے کا محنت کرنے کا کچھ حاصل کرنے کا وقت تھا اُس وقت تو سویا رہا وہ وقت تو نے سوکر گزار دیا۔ اس وقت بجھے کچھ کرنے کا ہوش نہ آیا۔

معنی: رات میں: رات کو۔ سویں: سوتا ہے۔ کھٹ: چار پائی۔ ڈیں ہمیں: دن کو

پئیں: پیٹا ہے۔ کوں: کو۔ جاں: جب، جس وقت۔ کھٹن: کمانے۔  
ویل: وقت، سماں۔ تاں: تب، اُس وقت۔ رہیوں، رہا

**فریداً سُتیاں نیند مت پوندے ایو**

جہاں نین نیندراوے دھنی ملنداے کیو

ترجمہ: اے فریدا! یے سونے سے ایسے لیٹنے سے نیند نہیں پڑتی ہے۔ جن کی آنکھوں  
میں نیند کی خماری ہے جن کی آنکھیں سوتی ہیں انہیں کچھ حاصل کیسے ہو۔ ان کے نصیب  
کیسے بد لیں انہیں مالک کیسے ملے۔ انہیں اپنے مالک کا قرب کیسے حاصل ہو۔ جو مالک  
سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اسے پکارتے نہیں اسے یاد ہی نہیں کرتے۔

**محتی:** سُتیاں: سوئے ہوئے، نیند میں۔ مت: نہیں، شاید۔ پونے: پڑتی، آتی۔

ایو: ایسے۔ جہاں: جن کے۔ نین: آنکھیں، عین۔ نیندراوے: نیند میں۔  
دھنی: نصیب، مقدار۔ ملنداے: ملتے۔ کیو: کیوں، کیسے

**فریداً کھیتی اُجڑی سچ سیوں بولا**

جے ادھ کھادی اُبریں تاں پھل بہتیرا پا

ترجمہ: اے فریدا! اگر کھیتی اُجڑگئی ہے فصل تباہ ہو گئی کرنی بر باد ہو گئی ہے تو اپنے سچ رب  
سے فریاد کرو اسی کو پکارو اس سے مدد مانگو جو آدمی یا جو بھی بچی ہوئی ہے اگر وہ بھی دوبارہ  
ہو جائے تو بھی تمہیں کافی نفع مل جائے گا۔ یعنی بابا جی فرماتے ہیں اے بندے جوزندگی  
تم نے گراہی میں غفلت میں بر باد کر دی ہے ضائع کر دی ہے اب بھی اس مالک سے  
رجوع کرو۔ اسے یاد کرو اس کا ذکر کرو وہ بڑا مہربان ہے ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول کر  
لے اور تمہیں اپنی عطاوں سے نواز دے۔

**معنی:** پچے: مالک حقیقی، رب تعالیٰ۔ سیوں: کو۔ بولا: پکار، یاد کر، فریاد کر۔  
اڈھ: آڈھی، پنجی ہوئی۔ کھادی: کھائی ہوئی۔ ابریس: اگے، بڑے۔  
تائ: تب، پھر۔ پھل: منافع۔ بہتراء: زیادہ، کافی۔ پائے: ملے، حاصل کرے

### فریدا کھیتی اُجڑی گروی پر رہیا مال صاحب لیکھا منکسی بندے کون احوال

**ترجمہ:** اے فرید تیری کھیتی اُجڑگئی تم نے اپنی زندگی غفلت میں ضائع کر دی۔ اپنے  
مال کا ذکر نہیں کیا اپنے رب کو راضی نہیں کیا ہے۔ اس فانی دنیا کے پیچھے لگا رہا ہے۔ عمر  
را یگاں چلی گئی اب تمہاری زندگی یعنی رہن ہو گئی ہے۔ روزِ محشر تمہارا مالک تمہیں پوچھے گا  
کہ تم نے اپنی زندگی میں مجھے یاد نہ کیا مجھے نہ پکارا اے بندے اب تم بتاؤ کس کے حوالے  
ہو۔ کس کے رحم و کرم پر ہو۔ اب تمہارا کون مددگار ہے۔

**معنی:** گروی: رہن۔ رہیا: رہا۔ صاحب: مالک، رب تعالیٰ۔ لیکھا: صاحب۔  
منکسی: مانگے گا، پوچھے گا۔ احوال: حوالے

### فریدا کڈیں اہ بکڑا اتے ہن بھی تھیسی یک او پی کٹا نہ کرے تھی لایوس سک

**ترجمہ:** اے فرید بھی اکیلا تھا اور ابھی اکیلا ہی ہو گا اور کوئی تمہارے ہمراہ نہیں ہو گا۔  
اکیلا آیا اکیلا ہی جائے گا اور اکیلا ہی رہے گا۔ تم نے ایسی امید لگائی تھی کہ کبھی تم اپنے  
فائدے کے کام کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ تم نے ایسی تمنا لگائی تھی کہ اپنا فائدہ یا فائدے کا  
کام کرنا سوچا ہی نہیں تھا۔

**معنی:** کڈیں: کبھی۔ رہ: تھا۔ بکڑا: اکیلا، ایک۔ آتے: اور۔ ہن: ابھی۔

تھیں: ہوگا۔ ہک: ایک۔ اوپی: کبھی۔ نا: کوشش۔ تھی: ولی، ایسی۔  
لایوس: لگائی۔ سک: امید، آرزو

اے فرید کدے آ ہو ہیکڑا اُتے ہن تھیو پر گٹ

ایو پاؤ مشاہرو جاں لا بیٹھوں ہٹ

ترجمہ: اے فرید کبھی تو اکیلا تھا اور ابھی تو ظاہر ہو گیا ہے اور تم نے اپنی دکان لگالی ہے جو کرے گا وہی بھرے گا۔ ایسے ہی اپنا روزینہ حاصل کرتے رہو۔ جو کرو گے وہی ملتا جائے گا۔ جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی پالیتا ہے۔

معنی: کدے: کبھی۔ آ ہوں: تھا۔ ہیکڑا: اکیلا۔ ہن: ابھی، اب۔ تھیو: ہور، ہو گیا۔  
پر گٹ: ظاہر۔ ایو: ایسے۔ مشاہرو، روزینہ۔ جاں: جب۔ لا: لگا۔ ہٹ: دکان

فرید چلے پر دلیں کو قطب جو کے بھاؤ

سانپاں جودھاں ناہراں تینوں دانت بندھاوا

ترجمہ: فرید کسی دوسرے علاقے پر دلیں کو چلے کسی اللہ والے کسی کامل ولی کو تلاش کرنے کے لیے اس کی تلاش میں نکلے۔ اے سانپواڑہ ہوا پنے دانت تیز کرلو۔ ہوشیار ہو جاؤ۔

معنی: پر دلیں: دوسرے دلیں۔

قطب: چکلی کا کیل جس کے گرد چکلی گھومتی وہ ولی جس کے ذمہ کسی علاقے کا نظام ہوتا ہے۔

جو کے: تلاش کرنے۔ بھاؤ: قیمت: در۔ سانپاں: سانپوں۔ جودھاں: اڑدھوں

ناہراں: بھیڑیوں۔ بندھاوا: تیز کرلو

فریداً گرن حکومت دُنی حاکم ناؤں ڈھرن

آگے ڈھول پیا دیاں پچھے کوت چلن  
چڑھ چلن سکھ واسنی اپر چور جھلن

**ترجمہ:** اے فرید دنیا میں حکومت کرنے والے حکمران کے نام سے پکارے جاتے ہیں جو حکمران کہلاتے ہیں۔ آگے لاٹشکر فوج کی ڈھول ہوتی ہے اور پچھے درباری چلتے ہیں۔ وہ سوار ہوتے ہیں سکھی زندگی بس رکنے والے اور سروں پر سکھے جھولنے والے سکھے جھولتے ہیں۔

**معنی:** کرنی: کریں۔ دُنی: دنیا، عالم، جہان۔ ناؤں: نام۔ ڈھرن: کہلاتے ہیں  
آگے: آگے، پیش۔ ڈھول: گردھمار۔ پیا دیاں: پہل چلنے والے سپاہی۔  
کوت: درباری، امراء۔ چلن: چلیں۔ واسنی: رہنے والے، بنسے والے۔  
اوپر: اوپر۔ چور: سکھے۔ جھلن: جھولیں

کناں دندال اکھیاں سَھنیاں دتی ہار

ویکھ فریداً چھڑ گئے ٹڈھ قدیمی یار

**ترجمہ:** کان سننے کے قابل نہ رہے دانت چبانیہیں سکتے آنکھوں میں پینائی نہ رہی سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی کام نہیں آتا۔ سب نے جواب دے دیا ہے۔ اے فرید جو قدیم سے شروع سے ساتھ تھے۔ جو قدیمی ساتھی تھی جو پرانے دوست تھے اب وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اب میرا کوئی بھی ساتھی نہیں رہا ہے۔

**معنی:** کناں: کان۔ دندال: دانت۔ اکھیاں: آنکھیں۔ سَھنیاں: تمام نے دتی: دی۔ ہار: ساتھ چھوڑ دیا۔ چھڑ: چھوڑ۔ ٹڈھ: بنیادی۔ قدیم: پرانے، لگوئیے یار: دوست، ساتھی۔

گُنْتَ نَيْنَاٰ تَنْ گَارِثِي نَا گَانْ ہَا تَحْ مَنَا

وِسْ گَندَلَاٰ مَنَدَه نَمَرْ ہُورِيں لَهْرَ لَهَا

**ترجمہ:** اپنے خاوند سے اپنے مالک سے اپنے رب سے لوگا لینا ایسے ہی ہے جیسے غلامی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ بندہ اُس کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہے جو وہ چاہے اُسی پرشا کر رہتا ہے۔ جیسے سانپوں کو چھونا منع ہے اُنہیں چھیڑنا خطرناک ہے ایسے ہی اپنے مالک کی رضا کے خلاف چلننا خطرناک ہے۔ دنیا کے لائق میں پڑنا یہ کڑوی گولیاں ہیں زہریلی گندلیں ہیں برے لوگوں کی صحبت برے لوگوں میں رہنا ان کی مجلس کرنا اور دنیا کے لائق اور لذتوں سے دوسروں کو منع کرنا ہے کہ وہ بھی اس فانی دنیا کے لائق میں پھنس کر اپنی عاقبت نہ خراب کریں۔

**معنی:** گُنْت: خاوند، خصم، مالک، رب تعالیٰ۔ نَيْنَاٰ: آنکھیں۔ گَارِثِي: پھندا، پھا، ہی نَا گَانْ: ناک، اژدھے، سانپ۔ مَنَاء: منع۔ وِس: زہر، زہریلا۔

گَندَلَاٰ: سرسوں وغیرہ کے تنے۔ ہُورِيں: اوروں کو، منع کرمنا۔ لَهْر: موج، چھل لَهَا: منافع، فائدہ

فَرِيدًا كُوكِينْدَرَاتَاٰ كُوكَ كَدَرَ تَاٰ رَبْ سُنِيْيَا

نَكْلَ وَيِسِيٰ پَھُوكَ پَھَرَ كُوكَ نَهْ ہُوسِيَا

**ترجمہ:** اے فرید اپنے مالک کو پکارتے ہو تو پکارتے رہو۔ یعنی اُس کا ذکر کرتے رہو کبھی تو وہ تم پہ نگاہ کرم کرے گا کبھی تو تمہاری فریاد سنے گا۔ کبھی تو تم پر مہربان ہو گا اور جب تمہارے جسم سے یہ سائیں نکل گئیں تب پھر تو اسے نہیں پکار سکے گا۔ پھر تو اس سے فریاد نہیں کر سکے گا۔ زندگی میں ہی اسے پکارنے کا وقت ہے۔

**معنی:** كُوكِينْدَرَا: پکارتا۔ تَاٰ: تو، تب۔ كُوك: فریاد۔ كَدَر: کبھی۔

سُنِيْيَا: سے گا۔ وَيِسِيٰ: جائے گی۔ پَھُوك: سانس، ہوا، دم۔ ہُوسِيَا: ہو گا

فریدا کیا لڑ پھٹے لٹ تھیں جائی چُنج وَنے

جے توں مریں پٹ تاں کہیا تیرا سُو پری

**ترجمہ:** بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ اے فرید ان سفید بالوں سے اس بڑھاپے سے لڑتا ہے اس سے کیوں جھگڑتا ہے جیسے وَن کے درخت پر بیٹھنے کی جگہ سے پرندے آپس میں لڑتے ہیں حالانکہ ان کا وہاں کوئی پکا بسیرا نہیں ہے۔ ذرا آہٹ ہوگی تو اڑ جائیں گے۔ تو ان کی طرح بڑھاپے سے کیوں ناراض ہے۔ اگر تو اپنے پیٹ کے لیے فکر مند ہے تو وہ کیسا تیرا محبوب ہے جو تجھے رزق نہیں دیتا تیرا خیال نہیں رکھتا ہے۔

اے فرید ان سفید بالوں کے وقت تیرے پلے تیرے دامن میں کیا ہے۔ جس طرح وَن کے درخت پر پرندے ہیں۔ اگر تو اپنے پیٹ کی فکر میں مر رہا ہے تو وہ کیسا تیرا محبوب ہے جو تیری یہ حاجت پوری نہیں کرتا۔

**معنی:** لڑپلے، دامن، جھولی، جھگڑا لڑائی۔ پھٹے: سفید۔ لٹ: زلف کے کٹتے بال جائی: جگہ جیسے۔ چُنج: چونچ: منقار، پرندے۔ وَنے: ایک درخت، حال، حالت۔ جے: اگر۔ مریں: مرتا ہے، مرے۔ پٹ: پیٹ۔ تاں: توں، تب۔ سُو: وہ پری: محبوب، مالک، رب تعالیٰ

فریدا لہریں سارِ گھہنڈ یاں بھی سوہنْسَرَن

کیا تریں بگ پڑے پہلی لہر ڈُن

**ترجمہ:** اے فرید سمندر کی لہریں آپس میں مکڑا رہی ہیں۔ پھر بھی وہ ہنس اس میں تیر رہے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے لیکن یہ نکتے بیچارے بگے کیا تیریں گے جو پہلی لہر میں ہی ڈوب جائیں گے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جس کو خدا نے کوئی کام کرنے کی قدرت عطا کی ہو وہ کام کر سکتا ہے جسے عطا نہ کی ہو وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔

**معنی:** لہریں: موجیں۔ سارے: سمندر، بحر۔ گھہندیاں: بلکراتی۔ سو: وہ۔  
ہنس: لٹخ نما آبی پرندہ۔ تران: تیریں۔ بگ: بگلا۔ پڑے: نکتے، بیچارے، نمانے  
ڈبن: ڈوبیں، غرق ہوں

فریداً ماںک اَتھاَه قدر کی جانے شیش گری

اکے تاں گوہڑا شاہ جانے اکے تاں جانے جو ہری

**ترجمہ:** اے فرید جو قیمتی موتی ہوتے ہیں وہ تو سمندر کی گہرائی میں ہی ملتے ہیں شیشے کا کام کرنے والا ان کی قدر کیا جانتا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ یہ کتنے قیمتی ہیں۔ ان کی قدر تو کوئی عظیم بادشاہ یا کوئی جو ہری جانتا ہے جن کا ان موتیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جوان ہیں خریدتے یا استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے کام کا ہی پتہ ہوتا ہے۔

**معنی:** ماںک: موتی، گوہڑا، دُر، وتحہ۔ اَتھاَه: گہرائی، عمیق۔ شیش گر: شیشے کا کام کرنے والا اکے: ایک کوئی۔ گوہڑا: عظیم بادشاہ۔ تاں: تو، تب۔

جو ہری: ہیرے موتیوں کا بیو پار کرنے والا، پرکھیا، سوداگر۔ تاں: تب، پھر  
اکے: ایک، کوئی

فریداً ماں بچے میری کملی جس جیون رکھیانا وَل

جاں دن پُنے موت دے نہ جیون نہ ماوں

**ترجمہ:** بابا جی سرکار فرماتے ہیں میری ماں یہ نہیں جانتی تھی جس نے میرا نام زندگی رکھ دیا یعنی جیئے والا نام رکھ دیا اور جب زندگی کے دن پورے ہوئے جب موت آئی تو نہ اس وقت ماں ہی موجود تھی اور نہ زندگی تھی۔ موت کے سامنے اس وقت دونوں ہی نہیں تھے اور موت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔

**معنی:** بے: اگر، جو۔ کملی: جھلکی۔ جیون: زندگی، حیاتی۔ رکھیا: رکھا۔ ناؤں: نام، اسم  
جال: جب۔ پئے: پورے ہوئے۔ دئے: کے۔ ماؤں: ماں، جنم دینے والی

مُنَّاں مُنْ مُنَايَا سِر مُنْتَهٰ کیا ہوئے

کیتی بھیڈاں مُنْیاں سِرک نہ لدھی کوئے

**ترجمہ:** مونا یعنی منڈواایا موٹڈا اور منڈواایا سر کے منڈوانے سے کیا ہوتا ہے۔ سر  
منڈوانے سے کوئی ولایت نہیں مل جاتی ہے۔ کچھ بدل نہیں جاتا ہے۔ جب تک دل نہ  
بدل جائے۔ حلیہ بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بابا جی فرماتے کتنی بھیڑیں موٹڈی  
گئیں ان کا کوئی سرا نہیں ملا ہے۔ وہ بعد کہیں نہیں ملی ہیں۔ ان سے کیا سبق ملایا کیا  
حاصل ہوا۔

**معنی:** مُنَّاں: موٹڈا۔ مُنْ: موٹڈ۔ مُنَايَا: منڈواایا۔ کیتی: کتنی۔ بھیڈاں: بھیڑیں  
سِرک: راستہ، سرا۔ لدھی: ملی، حاصل ہوئی۔ کوئے: کوئی۔

فَرِیدًا مُنْجَھَ مَكَہ مُنْجَھَ مَأْرِیاں مُنْجَھَ هِی مَحَرَاب

مُنْجَھَ هِی كَعْبَہ تَهْیَا کیس دِی گَرِی نَماز

**ترجمہ:** بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ اے فرید بھی میں ہی یعنی میرے من میں ہی مکہ ہے  
میں ہی وہ عمارت ہوں میرے اندر ہی محراب مسجد ہے۔ جب مکے والا کعبہ والا میرے  
اندر موجود ہے میں ہی کعبہ ہوں تو پھر کس کی نماز پڑھی کس کی نماز ادا کی۔ یہ ولی اللہ  
لوگوں کی بات ہے۔

**معنی:** مُنْجَھَ: میں، بھی۔ مَأْرِیاں: ڈیوڑیاں، عمارتیں۔ مُنْجَھَ: میں، ہی۔ تَهْیَا: ہوا، ہوں۔  
کیس: کس۔ دِی: کی۔ کربی: کی، پڑھی ادا کی۔ نماز: صلوٰۃ، نماز۔

مویٰ نٹھا موت تھیں ڈھونڈھے کائے گی

چارے گنجائیں ڈھونڈھیاں آگے موت کھلی

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ موت سے بھاگے کہ موت نہ آئے موت سے نجی چاؤں۔ وہ چھپنے کے لیے آڑ کے لیے گلی یعنی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں موت نہ آسکے۔ انہوں نے چاروں جانب تلاش کیا ہر طرف موت آگے موجود تھی۔ لہذا موت سے کوئی بھی نہیں نجی سکتا ہے۔ جہاں بھی ہو موت وہیں پہنچ جاتی ہے۔ خدا نے ہر ایک کی موت کا ذریعہ اور وقت مقرر کر دیا ہے۔ جو بدل نہیں سکتا ہے۔

**معنی:** مویٰ: خدا کے پیارے پیغمبر جن پر تورات نازل ہوئی، قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر۔  
نٹھا: بھاگ، دوڑا۔ تھیں: سے۔ ڈھونڈھے: تلاش کرے۔ کائے: کوئی۔

کندھاں: اطراف، جانب، سمتیں۔ آگے: آئے۔ کھلی: کھڑی، موجود

فریدا میں تن اوگن آیتوے پٹھی اندر وار

اک نزی خواری تھی رہے جے ڈس باہر وار

**ترجمہ:** اے فرید مجھ میں میرے جسم میں اتنے گناہ اتنے عیب ہیں لیکن وہ کھال کے اندر پوشیدہ ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ان پر میری کھال کا پردہ ہے۔ اگر وہ تمام باہر نظر آ جائیں تو میرے لیے اس زمانے میں ایک خواری بدنامی اور ملامت کا باعث بن جائیں۔ میرے لیے زندگی مشکل ہو جائے لیکن یہ اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے ان گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن، قلبوت۔ اوگن: گناہ، عیب، خطأ۔ آیتوے: اتنے۔  
پٹھی: کھال، چھڑا، پوس، میشا۔ اندر وار: اندر۔ ہک: ایک۔ نزی: خالص۔  
خواری: بدنامی، ملامت۔ تھی رہے: ہو جائے، بن جائے۔

ڈس: دکھائی دیں، نظر آئیں۔ باہر وار: باہر، ظاہر

فرید اُمیں تن اوگن ایڑے جیتے وھر قی ککھ  
تو جیہا میں نہ لہاں میں جیہاں کئی ککھ

**ترجمہ:** جناب بابا جی فرماتے ہیں اے فرید میرے جسم میں اتنے گناہ عیب ہیں کہ جتنے اس زمین پر تسلکے ہیں فرماتے ہیں انے مالک اے میرے رب تعالیٰ میں تیرے جیسا نہیں ہوں نہ ہو سکتا ہوں اور میرے جیسے زمانے میں لاکھوں ہیں تو بے عیب ہے گناہوں سے پاک تیرا کوئی ثانی نہیں ہے تو واحد اور باقی ہے۔

**معنی:** تن: جسم، بدن، قلب وغیرہ۔ اوگن: گناہ، عیب۔ ایڑے: اتنے۔ جیتے: جتنے۔  
دھرتی: زمین، بھوئیں۔ ککھ: تسلک۔ جیہا: جیسا۔ لہاں: خوبیاں، برابری

وچھوڑا بُریار جت وچھڑے تن پتلا  
سے ماہنوں ہنسیار وچھڑے میٹے جو تھیں

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اپنے محبوب کی جداگانی اس سے دوری بہت بُری ہوتی ہے۔ جس کا پیارا جدا ہوتا ہے اُس کا جسم سوکھ کر دُبلا پتلا کمزور اور لا غر ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں ہنس ککھ انسان جدا ہوئے اپنے محبوب سے وچھڑے اور انہوں نے چپ سادھلی۔ اور پریشان ہو گئے۔ وہ اپنا غم اپنے اندر ہی لے کر بیٹھ گئے۔ اس جداگانی کو کون ختم کرے کون اسے مٹائے۔

**معنی:** وچھوڑا: جداگانی، دوری، وقت۔ بُریار: یا و دوست، ساتھی، پیارا۔  
جت: جس، جس کو۔ وچھڑے: جدا ہوئے۔ تن: جسم بدن۔ دُبلا: لا غر، کمزور، پتلا۔  
ماہنوں: انسان، بندے۔ ہنسیار: ہنس جیسے حسین۔ میٹے: خاموش، چپ۔

تھیں: ہوئے، ہو گئے۔

## تج وچھاون پاہرو جتھے جائے سون

تہاں جنہاں دیاں ڈھیریاں دُور دل پپا دکن

**ترجمہ:** بابا جی سر کار فرماتے ہیں کہ وہ شان و شوکت والے لوگ جن کی تج جن کا بستر ان کا غلام ان کے خادم بچھاتے تھے اور اس پر جا کر وہ سوتے تھے۔ وہ سب موت نے فنا کر دیے مار دیے۔ اس دنیا سے مٹا دیے۔ آج ان کی قبریں دور سے نظر آتی ہیں کبھی جن کا زمانے میں طوٹی بولتا تھا۔ آج سوائے قبروں کے کچھ نہیں رہا۔ آخر وہ بھی مت جائیں گی۔ موت سب سے زور آ در یہ سب کو مٹا دیتی ہے۔

**معنی:** تج: بستر۔ وچھاون: بچھائیں۔ پاہرو: محافظ، نگہبان۔

کوسنگ: جو ساتھ کرنے کے لائق نہ ہو، برا۔ تیاگ: چھوڑ دے، علیحدگی۔ درگاہ: بارگاہ۔ تھیوی: ہو گا۔ مکھ، منہ، رُخ، چہرہ، رو۔ کوئے: کوئی۔ داغ: دھبہ

فریدا ہاتھی سوہن انباریاں پچھے کٹک ہزار

جائ سر آوی اپنے تاں کو میت نہ یار

**ترجمہ:** اے فرید ہاتھی اپنے غول میں جھنڈ میں اچھے لگتے ہیں یا کھریں ڈالے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جبکہ ان کے پچھے لڑاکوں کے ہزاروں تشرکر ہوں پھر بابا جی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اپنے سر پہ بننے تو نہ کوئی دوست اور نہ کوئی ساتھی ساتھ دیتا ہے۔

برے وقت میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کبھی حکمران تھے

**معنی:** سوہن: اچھے لگیں۔ انیاریا: ہاتھوں کی پاکھریں، غول، جھنڈ۔ پچھے: پیچھے، بعد۔

کٹک: لشکر، فوج، لام۔ جائ: جب، جس وقت آوی: آئے، بنے۔

تاں: تب، اس وقت۔ کو: کوئی۔ مت: متر، ساتھی، پیارا۔ یار: دوست، بیلی۔

فریداً اُتحاں ملکے جتھے سارے آنھے  
نہ کو سائوں جانے نہ کو سائوں منے

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے فرید وہاں ایسی جگہ ٹھہریں ایسی جگہ قیام کریں جہاں تمام لوگ بینائی سے محروم ہوں۔ یعنی کوئی بھی کسی کی طرف دیکھنے والا نہ ہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے سب اپنے حال میں مگن ہوں۔ وہاں نہ تو کوئی ہمیں جانتا ہی ہونہ کوئی ہمیں مانے کہ یہ فرید ہیں۔ ہمیں کوئی تسلیم ہی نہ کرے۔

**معنی:** اُتحاں: اُس جگہ، وہاں۔ ملکے: ٹھہریں۔ جتھے: جہاں۔  
و سن: بیسیں، رہتے ہوں۔ آنھے: اندھے، بینائی سے محروم۔ کو: کوئی۔  
سائوں: ہمیں۔ منے: مانے، تسلیم کرے۔

---

زندگی دا وساہ نہیں سمجھ فریداً توں  
کر لے اچھے عمل تے ہو جا سرگوں

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اس فانی زندگی کا کوئی بھروسہ کوئی اعتبار نہیں کہ یہ کب ساتھ چھوڑ جائے۔ اس لیے اس دنیاوی زندگی میں اچھے عمل کر لے اور عاجزی و انکساری اختیار کر لے۔ اس مالک کو عاجزی و انکساری قبول ہے جو مغرور ہو وہ راندہ جاتا ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے سر جھکا دے۔

**معنی:** دا: کا۔ وساہ: بھروسہ، اعتبار۔ توں: تو، تم، آپ۔ سرگوں: سر جھکا دے  
عمل: کام

---

فریداً جنہیں واصبر کمان آتے ذکر کماون کانیاں  
اوہناں مندے بان خالق خالی نہ کرے

**ترجمہ:** اے فرید جو لوگ اس مالک کی رضا پر شاکر ہوں صبراً اور برداشت کرنے والے ہوں صبر ہی ان کی کمان ان کے تیر بھی ذکر کرتے ہیں ان کی برائی کرے مالک پیدا کرنے والا برداشت نہیں کرتا۔

**معنی:** جنہیں: جنکا۔ کمان: تیر، ہتھیار۔ آتے: تو۔ کماون: کریں۔ کانیاں: تیر، قلمیں۔ اونہاں: ان، وہ۔ بندے: برے۔ باں: تیر، خصلت، خوب خلق: پیدا کرنے والا، بنانے والا

فریدُّا بندے رب دے تین ٹول کریں  
مٹھا بولن نو چلن ہتھوں بھی کجھ دیں

**ترجمہ:** اے فرید خدا کے بندے ایسے تین خوبیوں والے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں انہیں ڈھونڈھتے ہیں۔ جو با اخلاق ہوں یعنی شیریں زبان ہوں عاجزی سے چلیں۔ مغرورنہ ہوں اور ہاتھ کے سخنی ہوں۔

**معنی:** بندے: انسان۔ رب دے: خدا کے۔ تین: تین، تینوں۔ ٹول: تلاش، ڈھونڈھ کریں: کریں۔ مٹھا بولن: با اخلاق، شیریں زبان۔ نو چلن: عاجزی سے انکساری سے چلیں ہتھوں: ہاتھ سے۔ دین: سخاوت کریں

فریدُّا جیا کھڑی جب آتے کیسی سُوَّان جیون  
کیا رویِ تب چور ہی کوڑا تھیا

**ترجمہ:** بابا جی فرماتے ہیں اے فرید جب زندگی کا خاتمه ہو گا ملک روح کو لے جائے گا اس وقت زندگی کی جان کی حالت کیسی ہو گی۔ کیا حال ہو گا۔ جب چور جھوٹا ہو گیا قصور دار ہو گیا تو پھر کس کے سامنے روئے گا کے کہے گا کے سنائے گا۔

**معنی:** جیا: دل، من، چت۔ کھڑی: لے جائے گا۔ اتے: تو، تب۔ سُو: وہ۔  
 وَن: حالت، حال، ایک درخت۔ جیون: زندگی، جان، حیاتی۔ رُوی: روئے گا۔  
 تب: اُس وقت۔ کوڑا: جھوٹا، کاذب۔ تھیا: ہوا، ہو گیا

فریدُ اوڈھی ایہہ بہادری کر کنگ کوتیاگ  
 درگاہ تھیوی ملکھ اجلاؤی نہ لگے داغ

**ترجمہ:** اے فرید ایسی دلیری ایسی بہادری کرو کہ برقے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جو لوگ ساتھ کے قابل نہیں ان کا ساتھ نہ کریں۔ ان سے تعلق نہ رکھیں، علیحدہ رہیں۔ بارگاہِ الٰہی میں سرخ رو ہو گے۔ تمہارا چہرہ روشن ہو گا اور تمہارے چہرے پر کوئی داغ نہیں لگے گا۔ تمہارے ذمہ کوئی بدنامی نہیں ہوگی۔ وہ مالک صاف کرنے والا ہے۔

**معنی:** اوڈھی: بڑی۔ ایہہ: یہ۔ کوسنگ: جو ساتھ کے قابل نہ ہو۔  
 تیاگ: چھوڑ، علیحدہ ہو جا۔ درگاہ: بارگاہِ الٰہی۔ تھیوی: ہو۔ ملکھ: منہ، رُخ، چہرہ کوئے: کوئی۔ داغ: دبہ، بدنامی





پھری ٹھاں اور میراء



# مکتبہ حلو سفیہ

شیخ بندری سڑیت، بیگنگی، دینبار مارکیٹ، لاہور

Mob 0300-8124958

Rs.150.00

Marfat.com  
Marfat.com



پھری ٹھاں اور مراد



# مکتبہ حلو سفیہ

شیخ بندری سڑیت، بیگنگی، دینبار مارکیٹ، لاہور

Mob 0300-8124958

Rs.150.00